

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مسلمان بچوں اور بچیوں کے
صحیح

اسلامی نام



مرتب : حسن دین

لکن چڑھا طریقہ بردا آئکی تھیں ملکہ اپنی پبلیشیرز
500 002 لاہیڈہ لالہ 23-2-378

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلمان بچوں اور بچیوں کے
صحیح


اسلامی نام

مرتب : حسن دین

لکھنؤ طبع ایڈیشنز ایک نئی پبلیشورٹری

23-2-378 مغلیتو لاہور 500 002

Call : 040-24521777, 66490230, Fax : 66710230



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



زیر نظر


کتاب

اپنی نوعیت کی

ا علی ترین کتاب ہے

اس سے پہلا اتنی عمدہ کتاب کبھی مارکیٹ میں نہیں آئی مولف عناب
 صن دین صاحب نے اس موضوع پر خاصی محنت کی ہے اور مواد نہایت
 سلیقہ سے جمع کر دیا ہے۔ عربی اور فارسی کے نام رکھنے اگرچہ مزدیبات
 دین میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز
 کے نام رکھنے کی فضیلت بیان کر کے مسلمانوں کی پہچان کی ایک ظاہری
 علامت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ اور ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے
 جن کے معنی اچھے نہ ہوں جیسے آسید (معنی گنہہ گار) آسید نام رکھنے سے منع
 فرمایا اور شرب کا نام مدینہ رکھا گیا۔

مولف نے اللہ تعالیٰ کے اچھے صفاتی نام، انبیاء اور اولیاء کے نام
 اور مختلف فارسی، ترکی، عربی نام واضح کر دیئے ہیں جس سے مسلمانوں کو اپنے
 لڑکوں لڑکیوں کے نام رکھنے میں سہوات ہو گی۔





قرآن حکیم کی ایاتِ گریمَہ

تجھملہ: وہ معیود (برحق ہے) اس کے سوا کوئی معیود
نہیں اس کے (سب) نام اچھے ہیں۔ ۲۰ -

کہہ دو کتم (اللہ کو) اللہ (کے نام سے) پکارو یا رحمان
(کے نام سے) پکارو، اس کے سب نام اچھے ہیں۔

۱۱۵ - ۱۶






رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خداوندِ عالم نے
خود ہی مقرر فرمایا اور آپ کو احمد کہا گیا۔ اس کے معنی
معزیادہ تعریف کرنے والا ہیں۔

حضورؐ کے بزرگوں نے آپ کا نام "محمد رکھا جس
کے معنی زیادہ سراہبوا، زیادہ قابل تعریف ہیں۔
یہ دونوں باتیں حضورؐ کی ذات میں موجود تھیں۔





اچھے ناموں سے نیک فال حاصل کرنا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندہ سہیل کی آمد سے نیک فال حاصل کی اور فرمایا ہمارا کام اب آسان ہو جائے گا۔ سہیل کے معنی آسائی کے ہیں۔

اسی طرح حضور نے پسے نواسوں کے نام حرب کی جگہ حسن و حسین تجویز فرمائے تکیوں کو حرب کے معنی جنگ وجدال کے ہیں۔



مشہور سینیروں کے یہ نام عبرانی زبان سے لئے گئے ہیں۔
عبرانی لفظ میں ان ناموں کے معنی بھی دیئے گئے ہیں۔

داود	:	عَزِيز وَوَسْت
اسحق	:	خَدَاهُنْس دَهْ گا
میکائیل	:	خَدَائِک مَانَند ہے کون؟
شمیول	:	نَامِ خَدا
ذکریا	:	خَدَایاد کیا
دانیال	:	خَدَانے اندازہ مقر رکیا ہے
یعقوب	:	بلند مقام پر ممکن
موسیٰ	:	بڑے احکام دینے والا
سلمان	:	پرامن
ہارون	:	تقویت دیا گیا
نوح	:	روئے والے، لمبی عمر حیے والے

اردو اور فارسی علم ہجھ کا پہلا حرف حساب جمل میں اسکا ایک عالمگیر

1

ابرار الحق، ابرار الحسن	ابرار ع نیک لوگ، اچھے لوگ
ابن اثیر، ابن الرشید، ابن الامیر	ابراہیم ع ایک بڑے پیغمبر کا نام
ابن السعادت، ابن السبیل	ابن ع فرزند، بیٹا
ابوالبشر، ابوالخیر، ابوالبرکات	
ابوالفضل، ابوبکر، ابوحنیفہ رض	
ابوہریرہ رض، ابوالضیا، ابوالدرداء	
ابوالکلام، ابوالبیان، ابوالاعلیٰ	

اشیاء کا سردار، مالک	اشیر
اشیر اللہ، اشیر الحق، اشیر الدین	اشیر ع بلند، عالی، آسمان
اشیر الحسن، اشیر الزمان،	
اشیر الاسلام	

اجلال ع بزرگی، شوکت	اجمال
اجمال الدین، اجمل الزمان	اجمال ع نہایت حسین، خوبیوں
اجمل الخیر، اجمل الحسن	
احترام الحق، احترام الظفر	احترام ع عزت، منزلت
احترام الدین، احترام الخیر	
احترام الاسلام	

احتشام ع بزرگ، شوکت

احتشام اللہ، احتشام الحق
احتشام الدین، احتشام الحسن
احتشام الخیر، احتشام الزمان
احتشام الاسلام، احتشام الابرار

احمد ع تنہا، یگان، اکیلا عبدالاحد

احسان ع نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا احسان الدین، احسان رب
احسان الحق، احسان الرحیم
احسان اللہ، احسان الحسن
احسان المکریم، احسان الرؤوف
احسان الہی، احسان الرزاق

احسن ع اچھا، خوب صورت جیسیں محمد احسن، احسن اللہ

احکم ع نہایت مصبوط، پائیدار احکم الدین، احکم الزمان

احکم الاسلام

احمد ع تعریف کیا ہوا

احمر ع لال، سرخ

اختر ف ستاء، نصیبہ، شکون

اخڑا الیمان، اخڑا السعادت

اخڑا البرکات، اخڑا الحسن

اخڑا الزمان، اخڑا الاسلام

عبدالآخر

آخر ع سب سے کچلا

اخضر ع سبز، ہرا

اخلاقی ع خلوص، محبت، دوستی
 اخلاق ع اپنی عاریں، غلطیں
 اخلاق الحق، اخلاق الدین
 اخلاق الرحمن

اوریسٹ	ع ایک پیغمبر کا نام
آدم	ع پہلا انسان حضرت آدم
ادھم	ع کالا سانپ، ابراہیم بن ادھم رج جو نوع کی بادشاہیت چھوڑ کر فقیر ہو گئے تھے۔
اویب	ع زبان و ان، علم جلتے والا
ارتضی	ع پسندیدہ ہونا
آزو	ف امید، خواہش مطلب
ارجم	ع بہت رحم کرنے والا
اسلان	ت بندہ، غلام، شیر
الپ ارسلان	شکیب ارسلان
نجیب ارسلان	
ارشاد	ع نیک پدایت دینا، حکم
ارشد الرسول	ارشاد النبی
ارشد الہی	ارشاد اللہ
ارشد الحسن	ارشاد الحسن
ارشد الدین	ارشاد الدین
ارشد الایمان	ارشاد الایمان، ارشد الاسلام
ارشد الزماں	
ارشد الرسول	

ارشاد الغیر، ارشاد الدین
ارشاد النبی، ارشاد الحق

ارفع	ع	بہت بلند، بلند مرتبہ
ارمان	فے	خواہش، آرزو، حوصلہ
اریب	ع	عقلمند، عالم
ارسیں	ع	کسان
آزاد	فے	خود مختار، فارغ، بربی
اسامہ	ع	ایک صحابی کا نام
استحسان	ع	اچھا سمجھنا
اسحق	ع	ایک پیغمبر کا نام، محمد اسحق
اسد	ع	شیر، احتمان کا پیغمبر، اسلام
اسدالدین	ع	اسد الرحیم
اسد الرحمن	ع	اسد الرحمن، اسد الحق
اسدالکریم	ع	اسد الله
اسرار	ع	بھیج، رال
اسرالاحسن	ع	اسرار الاسلام
اسرالحق	ع	اسرار الائمه
اسرار الرحمن	ع	اسرار الدین
اسرارالہی	ع	اسرار الزمان
اسرافیل	ع	قیامت کے دن صور پوچھنے والے فرشتہ کا نام
اسرافیل	ع	حضرت یعقوبؑ کا دوسرا نام

اسعد	ع نیک بخت باہت صالح	محمد اسعد
اسلام	ع جمکنا، فرمائی برداری کرنا	اسلام الحق
اسلم	ع پاکیزہ، حفظ	اسلم الحق، اسلم الدین
اسلوب	ع طرز، طریقہ، مُھنگ	اسلوب العین، اسلوب الحق
الاسماء الحسنی:	الشیخ شانہ کے ننانوئے نام جن کے آگے عبد (بنده) لکا کر پوں کا نام رکھنے کا رواج عام بھی ہے، احسن بھی اور افضل بھی	

الله	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ	الْرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ	الْمَلِكُ الْعَظِيْمُ
الشَّهٰدَةُ	شَهادَةُ اللّٰهِ أَكْبَرُ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الْقَدْوَسُ	الْقَدْوَسُ	السَّلَامُ	السَّلَامُ	الْمُؤْمِنُ
پاک	سَلَامٌ مَّا كَفَى	سَلَامٌ مَّا كَفَى	سَلَامٌ مَّا كَفَى	عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَّا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا
الْعَزِيْزُ	الْجَبَارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْجَبَارُ	عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَّا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا
غالب	نَفْسٌ بِوَالِهِ نَفْسٌ	نَفْسٌ بِوَالِهِ نَفْسٌ	نَفْسٌ بِوَالِهِ نَفْسٌ	عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَّا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا
الْبَارِئُ	الْغَفَارُ	الْمُصَوَّرُ	الْغَفَارُ	عَالَمٌ كَبِيْرٌ
الْوَهَابُ	صَوْرَتِنَا وَالا	صَوْرَتِنَا وَالا	صَوْرَتِنَا وَالا	عَطَا كَرِيْمٌ
الْقَابِضُ	الرَّزَاقُ	الْفَتَاحُ	الرَّزَاقُ	بَنَدَرَكَرِيْمٌ
بَنَدَرَكَرِيْمٌ	رَزْقُ دِيْنِيْهِ وَالا	رَحْمَةُ دِيْنِيْهِ وَالا	رَزْقُ دِيْنِيْهِ وَالا	عَلَمٌ وَالا
الْمُبَصِّرُ	الْبَاسِطُ	الْخَافِضُ	الْبَاسِطُ	كَوْلَنَيْنِيْهِ وَالا
دِيْكَيْنَيْنِيْهِ وَالا	كَوْلَنَيْنِيْهِ وَالا	بَسْتَكَرِيْمٌ	كَوْلَنَيْنِيْهِ وَالا	بَنَدَرَكَرِيْمٌ
الْمُعْزُ	الْمُذْدَلُ	السَّمِيعُ	الْمُذْدَلُ	عَزْتُ دِيْنِيْهِ وَالا

الْحَمَّامُ	الْعَدْلُ	الْطَّيِّفُ	الْخَلِيلُ
حاكم	عدل	بارك بين	خردار
الْحَلِيمُ	الْغَفُورُ	الْعَظِيمُ	الْكَوْسُرُ
بردبار	غافر	بزرگ	شکرپند
الْعَلِيُّ	الْكَبِيرُ	الْعَلِيُّ	الْمُقِيتُ
بلشد	بزرگ	بلشد	قوت دینه والا
الْحَسِيبُ	الْجَلِيلُ	الْحَسِيبُ	الرَّقِيبُ
کافی	بزرگ	کافی	نگبان
الْمُجِيبُ	الْوَاسِعُ	الْمُجِيبُ	الْوَدُودُ
بزرگ	واسع	بزرگ	دوست
الْمَحِيدُ	الْبَاعِثُ	الْمَحِيدُ	الْحَقُّ
رسولون کا یہیون والا	باخت	رسولون کا یہیون والا	رسان
الْوَكِيلُ	الْقَوْىُ	الْمُتَّيِّنُ	الْوَلِيُّ
کارسان	طااقت والا	مضبوط	دوست
الْحَمِيدُ	الْمُحَصَّنُ	الْمُبَدِّئُ	الْمُعَيَّدُ
قابل تعریف	گھیرنے والا	پیدا کرنے والا	پیدا کرنی والا
الْمُرْجِيُّ	الْمُهَمِّيَّةُ	الْعَجَزُ	الْقَيْوَمُ
زندہ کرنے والا	مارنے والا	زندہ	چیشور ہنسے والا
الْوَاحِدُ	الْمَاجِدُ	الْوَاحِدُ	الْأَحَدُ
پانے والا	بزرگی والا	ایک	کیسا

الصَّمَدُ	الْقَادِسُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقْدِرُ
بے نیاز	قدرت والا صاحب قدرت پہلا
الْمُؤْخِرُ	الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ
پھلا	اول آخر ظاهر
الْبَاطِنُ	الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِيُّ الْبَرِّ
پوشیدہ	کارساز برتر احسان کرنیوالا
الْتَّوَابُ	الْمُبَتَّعِمُ الْعَفْوُ الْرَّءُوفُ
توہ بقول کرنیوالا بدر لینے والا معاف کرنیوالا بہت میربان	مالِكُ الْمُلْكِ ذَالْجَلَلِ وَالْكَرَامِ الْمُفْسِطِ
الْجَامِعُ	الْعَنْتَنِيُّ الْمُغْنِيُّ الْمُعْطِيُّ
یکجا کرنیوالا	مالک ملک کا صاحب بزرگ اور غنیش کا عدل کرنیوالا
الْمَانِعُ	الْعَنْتَنِيُّ الْمُغْنِيُّ الْمُعْطِيُّ
بے پرواہ دینے والا	بے پرواہ کرنیوالا
الْتَّافِعُ	الضَّارُّ
باز رکھنے والا	ضرر پہنچانے والا
الْهَادِيُّ	الْبَدِيعُ
راہ دکھانے والا	نیا پیدا کرنیوالا
الرَّشِيدُ	جَهَانِ كَارِهِنَا
اسمعیل ۽ ایک پیغمبر کا نام	الصَّبُورُ، برداشت رکھنے والا
آسِي	طَبِيبٌ مَعَالِيٌّ
اشتیاق آرزو شوق، آرزو	اشتیاق الائمان، اشتیاق الہیان

اشتیاق الاسلام، اشتیاق الایمان

اشرف ۽ اعلیٰ خاندان

اشرف ۽ سرتبرگ، بڑا شریف اشرف الدین، اشرف الحق
 اشرف اللہ، اشرف الایمان
 اشرف الرحیم، اشرف الرحمن

اشعر ۽ بہت بڑا شاعر، عقل نند
 اشفاق ۽ مہربانیاں، عنایات

محمد اشعر
 اشراق الحن، اشراق الغیر
 اشراق الدین، اشراق الرحیم
 اشراق الکریم، اشراق الرحمن
 اشراق الحق، اشراق الدین
 اشراق اللہ، اشراق الہی

اشهر ۽ بہت مشہور

اصغر ۽ بہت چھوٹا
 آصف ۽ حضرت سیلمان کے وزیر کنام آصف الدین، محمد آصف، آصف الہی
 اصلاح ۽ درست کرنا، ستوارنا

اطہر ۽ بہت پاک

محمد اطہر، اطہر الہی
 اطہار الدین، اطہار الایمان
 اطہار الحسن، اطہار الاسلام
 اطہار الحق، اطہار الغیر
 اطہار اللہ، اطہار السعادت
 اطہر الدین، اطہر الاسلام

اطہر ارشد، خاہ برزنا، بیان دینا

اطہر زیدہ واضح، روشن

اعتماد الحسن	اعتماد الحق، اعتماد الدهن	اعتماد الحسن	اعتماد الحسن
اعجاز الحسن	اعجاز الاسلام، اعجاز الحسن	اعجاز الحسن	اعجاز الحسن
اعجاز الرحمن	اعجاز الراحمان	اعجاز الرحمن	اعجاز الرحمن
اعجاز الزمان	اعجاز الخير	اعجاز الزمان	اعجاز الخير
اعزاز الہی	اعزاز الرحمن	اعزاز عزت	اعزاز عزت
اعظم الدین	محمد اعظم	اعظم	اعظم
محمد اعلیٰ	محمد اعلیٰ	بہت بڑا	بہت بڑا
آغا شرف	آغا شرف	بہت بند، بلند مرتبہ	بہت بند، بلند مرتبہ
آفاق الدین	آفاق الظفر	آغا	آغا
آفاق الحسن	آفاق الخیر	آقا، مالک، بڑا بھائی	آقا، مالک، بڑا بھائی
آفاق الزمان	آفاق الاسلام	آفاق	آسمان کے کنارے
افتخار الدین	افتخار الحسن	افتخار	افتخار
افتخار الحسن	افتخار الحسن	فخرنا	فخرنا
محمد افسر	محمد افسر	افسر	افسر
افصل الرحمان	افصل الاسلام	فصل	فصل
محمد افضل	محمد افضل	فضل	فضل
افضل الدین	افضل الحسن	برتر	برتر
افضل الرحمن	افضل الاسلام	خوبی، خوش بیان	خوبی، خوش بیان

افقر و بہت محتاج حاجت مند افہام و سمجھ، عقل، شعور افہام الدین، افہام السعادت افہام الاسلام، افہام الخیر افہام الایمان، افہام الحسن افہام الحق، افہام اللہ اقبال الحسن، اقبال الہی اقبال الخیر، اقبال السعادت	اقبال و کامیابی نوشنیبی
اقتدار و قدرت، طاقت حکومت اقتدار الحسن، اقتدار الہی اقدس و بہت پاک، بزرگ محمد اقدس، اقدس الہی اقدم و سبے آگے، بہت آگے محمد اقدم، اقدم الہی اقرار و تسیلم کرنا، مان یتنا اقرار الہی، اقرار الحسن، اقرار الخیر اکبر و بہت بڑا اکبر الدین، اکبر الزمان، محمد اکبر	اکتساب و مخت س کرنا، حاصل کرنا اکتساب الخیر، اکتساب السعادت اکرام و بخشش کرنا، مہربانی کرنا اکرام اللہ، اکرام الدین اکرام الحق، اکرام الزمان اکرام الحسن، اکرام الہی اکرام الجید، اکرام الجمیل اکرم الدین، اکرم الزمان اکمل الاسلام، اکمل الایمان اکمل الزمان، اکمل الدین اکمل الخیر
	اکرم و بہت بخشش والا اکمل و کامل، بہت مکمل

التفات	ع متوجہ ہونا، مائل ہونا	التفات الرحمان، التفات الہی
التمش	ع سردار قوح	
الطاف	ع مہربانیاں، عنایتیں	الطاف اللہ، الطاف الحسن
		الطاف الحق، الطاف الرحمن
		الطاف الدین، الطاف الرسول
		الطاف الشی، الطاف الاسلام
الياس	ع ایک بیغیر کاتام	الياس ، الياس احمد
امام	ع پیشوادی، رہنمائی	امام الحق، امام الزمان
		امام الدین، امام الاسلام
		امام البرکات، امام السعادت
		امام الحسن، رام الخیر
امان	ع پناہ، حفاظت	امان اللہ، امان الرحیم
		امان الرحمن، امان الحق
امانت	ع سپرد کی ہوئی چیز حفاظت	امانت اللہ، امانت الدین
		امانت الحق، امانت الاسلام
امتیاز	ع فرق کرنا، تمیز کرنا	امتیاز الدین، امتیاز الحق
المجد	ع بزرگ، شریف	المجد الدین، المجد الاسلام
		المجد الایمان، المجد الخیر
امداد	ع مدد کرنا	امداد اللہ، امداد الحق
		امداد الخیر، امداد الدین
امر	ع حکم، کام، فعل	امر اللہ، امر الحق، امر الدین

آمر الدین ، آمر المحسن
آمر الحق ، آمر الاسلام
آمر النیر

آمر حاکم ، حکم کرنیوالا

امیر اکبر ، امیر الاسلام
امیرالبکر ، امیرالزمان
امیرالحق ، امیرالحسن
امیرالدین ، امیرالزمار
امیرالله

آمن قبول کرے، خدا یا ہی کرے

امین الرشید ، امین النیر
امین الاسلام ، امین الحق
امین الدین ، امین الرحمن
امین الرحیم ، امین اللہ
امین الحسن

انتخاب الزماں ، انتخاب المحسن
انتخاب الحق ، انتخاب الدین
انتخاب الایمان ، انتخاب النیر
محمد انتظار ، انتظار الحق
انتظام الدین ، انتظام الحق
انتظام اللہ

انتخاب چنان پسند کرنا

انتظار را دیکھنا

انتظام بندوبست ، کام پورا کرنا

انجم ستارے

آنس	ع ایک صحابی کاتام
انشاللہ	ع خدا نے چاہا
انصار اللہ	ع مددگار
انصار الدین	انصار الاسلام
انصر الدین	انصر الاسلام
انصر الحق	انصر الرحمات
انعام الخیر	انعام اللہ
انعام الودود	انعام الرؤوف
انعام الرحمن	انعام الغفور
انعام التغافر	انعام الکریم
انعام الدین	انعام الرحیم
انعام رب	انعام الحق
انعام الشکور	انعام الرسول
الوار السعادت	الوار الدیتے
الوار الحنف	الوار الحسن
الوار اللہ	الوار الرحمن
الوار انیز	الوار الاسلام
الوار الرحیم	الوار الایمان
الوار الدین	الوار الحسن
الوار الاسلام	الوار الحنف
الوار السعادت	الوار اللہ

ائیں ۽ مجت رکھنے والا، علگسار ایں الحق، محمد ائیں
 اور نگ ۽ تخت شاہی، عقل، مانش اور نگ زیر ب
 اوصاف ۽ تعریف، صفت اوصاف الہی، محمد اوصاف
 اول ۽ پہلا، شروع عبدالاول
 اولی ۽ نہایت اچھا بہت مناسب
 اولیں ۽ ایک بزرگ اولیں قرنی محمد اولیں، اولیں احمد
 ایاز ف محمود غزنوی کے غلام کاتام محمد ایاز، ایاز الہی
 ایبک ت قاصد غلام، پورا چاند
 ایشارہ ۽ ترجیح دینا
 ایجاد ۽ اختراع، نئی چیز بنانا
 ایکان ۽ خدا کامل سے تقویں کرنا
 آئین ۽ بڑا بے خوف، محفوظ
 الیوب ۽ ایک پیغمبر کاتام محمد الیوب، الیوب الہی

عربی، اردو اور فارسی کا دوسرا حرف جسے جملے میں اسکا دو عدد و مقرر ہے

ب

بابا ف بڑا چبا، فقیر، بزرگ
 بابر ت اکبر بادشاہ کے دادا کا نام
 بایک ف ایک بادشاہ جو اور دشیر کا
 ناموں تھا۔ آئین استوا

بابو ف مانک، شہزادہ، حاکم	
پادشاہ ف تاج دار پادشاہ	
باز ع نیک رسول خدا کا نام	
باری ع پیدا کرنے والا	
باڑ ف شکاری پرندہ، شاپنگ	
باسط ع کھونے والا	
باشتا ف تاج دار	
باقر ع زیادہ پڑھانا کھا غالم	
باقی ع بچا ہوا، زندہ	
باعث ع اٹھانے والا	
بھر ع بڑا دیبا، سمندر	
بخت ع قسمت، اقبال	
بختاور ا صاحب نصیب، اقبال مند محمد بختار	
بختیار ف خوش قسمت، صاحب اقبال بختیار الہی	
بخش ف دینا	
بخشش ف خدا بخش، خدا بخش ہولا بخشش	
بدر ع پودھوں کا چاند	
بدرالدین ، بدرالسالکین	
بدرالعارفین ، بدرالعالیین	
بدرالحق ، بدرالزمان	
بدرالرجحی ، بدرالایمان	

بدرالہمدی، بدرالنیز	بدرالہمدی، بدرالنیز
عبدالبیت المقدس، عبدالدین	بدرالنیز، نوکھا نادر، نوی بات
بدرالحسن، بدرالزمان	
بدرالاسلام، بدراللہ	
عبدالنبر	بر
برکت اللہ، برکت من اللہ	بر جیس
برہان الدین، برہان الحق	برکت
برہان من اللہ	برہان
بشرات الحق، بشارت الدین	بسم اللہ
بشرات الرسول، بشارت الحق	بشرات
بشرات النیز، بشارت الحسن	خوشخبری
بشرات الاسلام، بشارات الیمان	الہام
محمد بشارت	
بیشیر الدین، بیشیر الحق	بیشیر
بیشیر اللہ، بیشیر الحسن	
بیشیر الاسلام، بیشیر الایمان	
عبدالبصیر، بصیر الحق	
بصیر اللہ، بصیر الدین	دانا، بینا

بصیر الحسن، بصیر الزمان
بصیر الامین، بصیر الایمان

بصیرت ع بنیانی
بلال ع آنحضرت کے صحابی کاتام
بوبکر ع حضرت ابو بکر صدیق
بوتراب ع حضرت علیؓ کا لقب

بہاء الدین مول، دام، قیمت
بہاء الدین، بہاء الزمان

بہلوں ع ایک نام اور بزرگ کاتام
پیشوائے قوم
بیدار ف ہوشیار، جاگتا ہوا
بیگ ت سردار، امیر شہزادہ

بیک
اردو ناہی کا یہ سر ایہدی کا ایکسو ان حرف۔ ایک دین
پارس = ایک قسم کا پتھر، ایکسر [اس کے دو حرف میں

پاشا ت سردار، حاکم
ترک سرداروں کا لقب
پرویز ف فتح مند، نو شیر وان عا
کے پوتے کاتام

اردو فارسی کا پونکھا، عربی کا تیسرا حرف ہے۔ ابجد میں اسکے
300 عدد ہیں

ت

تایاں ف چک دار، چکنے والا

تابش ف چک، گرمی

تاشر ع نتیجہ، اثر، نشان

تاج ع بادشاہی ٹوپی

محمد تابش

تاشر الحسن، تاشر الخیر

تاشر الاسلام، تاشر الدین

تاج الہدیٰ، تاج الایمان

تاج النصر، تاج الفتح

تاج الاسلام، تاج الدین

تاج الخیر، تاج الزمان

تاج الحسن، تاج السعادت

تاجدار ف بادشاہ

تاجورف بادشاہ، تاج والا

تبارک ع برکت والا

تبسم ع مسکراہٹ

تجمل ع زیبائش، آڑائش

تراب ع مٹی، غاک، زمین

تسلیم ع ماننا، سونپنا، سلام کرنا

تبارک اللہ، تبارک حسین

تجمل الدین، تجمل الاسلام

تجمل الحسن، تجمل الخیر

تراب الدین، ابوتراب

تسلیم اللہ، تسليم الحسن

تسليم الخیر

تسمیم ع بہشت کی ایک بہر

تصدق ع قربانی، مدد ہونا
تصدیق ع اثبات، محبت

تصور ع خیال، سوچ
تعظیم ع عزت، بزرگی

تفضل ع فضیلت، بزرگی
تقویم ع سمعانا، مطلب

تقدس ع پاک، پاکیزگی
نقی ع پرہیزگار، پارسا

تکریم ع بزرگی، عزت

تسمیم الہدی، تسمیم الخیر
تسمیم الحسن، تسمیم النظر
تسمیم الدین، تسمیم الاسلام
اصدق حسین، اصدق الہدی
تصدیق الحق، تصدیق اللہ
تصدیق الدین، تصدیق الہدی
تصدیق الاسلام، تصدیق الحسن
تصدیق الخیر، تصدیق السلام

تعظیم الدین، تعظیم الرسول
تعظیم الحسن، تعظیم الاسلام
تفضل الدین، تفضل الہدی
تفضل الخیر، تفضل الاسلام
تفہیم الدین، تفہیم الحسن
تفہیم الہدی، تفہیم الاسلام
تفہیم الخیر، تفہیم الحق
تقدس الہدی، تقدس حسین
نقی الاسلام، نقی الدین
نقی الحق، نقی الحسن
تکریم اللہ، تکریم الہدی
تکریم الحسن، تکریم الدین

تکمیل الخیر، تکمیل النظر
تکمیل الہدی، تکمیل الزمان
تکمیل الحسن، تکمیل الاسلام
تکمیل الخیر، تکمیل النظر

تکمیل ع پورا کرنا، کامل کرنا
تکمیل ع مشابہت، مثال

تمہید الاسلام، تمہید الحسن
تمہید الخیر، تمہید النظر
تمیز الدین، تمیز الحق
تمیز الحسن، تمیز الخیر
تمیز الاسلام، تمیز النظر

تمجید ع بزرگ، بڑائی
تمکنت ع قدرت، دبده
تمنا ع خواہش، آرزو
تمہید ع عنوان، ابتداء

تمیز ع شناخت، پہچان، شعور
تمیم ع منصبوط، پورس قد و قامت والا
ایک بزرگ کا نام

تنزیل الرحمن، تنزیل الرحیم
تنزیل رب، تنزیل الخیر
تنزل الہدی، تنزل الحق

تنزیل ع اتنا، نازل کرنا

تنظیم ع موئیوں کا پرونا، بند و بستہ رہنا
تتوییر ع روشن کرنا
تتوییر الاسلام، تتوییر النظر
تتوییر الحق، تتوییر الحسن
تتوییر النظر، تتوییر الزمان

تُنورِ الخير، تُنورِ الحق	تُوَّاب	ع توبہ قبول کرنیوالا
عبد التواب	تُوَسِّیق	ع مضبوط کرنا
محمد توشیق	تُوحید	ع ایک ماننا، ایک سمجھنا
توصیف الدین، توصیف الحسن	توصیف	ع بیان کرنا
توصیف الخیر، توصیف الاسلام	توفیق	ع موافق کر دینا، خیال
توفیق اللہ، توفیق الحکیم	توقّد	ع روشن تیز طبع ہونا
توفیق الرحمن، توفیق الرحیم	تُوَّیر	ع عزت کا خیال کرنا
توفیق الودود، توفیق الایمان	تُوكِل	ع اعتماد، بھروسہ کرنا
توفیق الحسن، توفیق الخیر	تہہماںی	ع بنی کریم کا القب مبارک
توقیر اللہ، توقیر الہدی	تیمور	ت فولاد مشہور باو شاہ کا نام
توقیر النظر، توقیر الحسن		
توقیر رب، توقیر الاسلام		
توکل الہی۔ توکل حسین		

اردو کا چھٹا، عربی کا چوتھا، فارسی کا پانچواں حرف
حساب جمل میں اس کے ۵۰۰ عدد ہیں



ثابت ع پورا مضبوط، قائم محمد ثابت، ثابت حسین

شاقب	ع چمک دار، روشن
ثالث	ع تیسرا، تیسرا پنجم
شامن	ع آٹھواں
ثانی	ع دوسرا
ثروت	ع مال کی زیادتی، دولت
ثروت الحسن	ثروت الحسن
ثروت الزمان	ثروت الزمان، ثروت الظفر
تعلیم	ع دو گردہ مراد انسان اور جن
شم	ع پھل، تنبیج
شمن	ع قیمت، قدر
شمین	ع قیمتی، بیش بہا
شنا	ع تعریف، مدح
شنا و اللہ	شنا و الاسلام
شنا و الرحمن	شنا و الحق
شنا و الحسن	شنا و رب
ثوبان	ع آنحضرتؐ کے ایک غلام کا نام

اردو کاستوان، عربی کا پانچواں، فارسی کا چھٹا حرف
اس کے اعداد ۳۳ مقرر ہیں



جابر ع زیادتی کرنے والا، غالب محمد جابر، جابر سین

جاسر	ع شجاع، بہادر
جالب	ع اپنی طرف کھینچنے والا
جامع	ع جمع کرنے والا، حاوی
عبدالجامع	عبدالجامع، جامع العلوم
جامع الخیر	جامع البرکات
جامع السعادت	جامع الظرف
جان توارز	جان توارز، جان توارز
جان باز	جان باز، جانی
جاوید	دائی، پایانہ، پھرستہ رہنے والا
جاه	ف عزت، مرتبہ، قدر
جبار	ع جیر کرنے والا
جبریل	ع پیغمبر و پر خدا کے احکام پہنچانے والے فرشتہ کا نام
جرار	ع کھینچنے والا، بہادر
جزا	ع بدلہ، عوض، پھل
جزاک اللہ ع	اللہ تجھے بدل دے
جسمیم	ع موتا، فریہ جسم والا
جسم الدین	جسم الدین، جسم الحق
جسم الخیر	جسم الخیر، جسم الظرف
جعفر	ع ندی توار، آنحضرتؐ کے پیرے محمد جعفر، جعفر سین بھائی کا نام

جعفری ف گیندا، از روپکھوں، خسوب
جعفر طیار

جلال ع بزرگی، رعب، بڑائی

جلال الدین، جلال الہدی

جلال الخیر، جلال الحسن

جلال الزمان، جلال الظفر

جلالت الملک، جلات الحسن

جلالت الظفر، جلات الاسلام

جلالت ع بزرگی، عالی تبہہ ہوتا

جلید ع قوت والا، صابر

جلیس ع ہم نشیں

جلیس الحسن، جلیس الخیر

جلیس الظفر

عبد الجلیل، جلیل القدر

جلیل اللہ، جلیل الرحمن

جلیل رب، جلیل الحسن

جمال الدین، جمال اللہ

جمال الہدی، جمال الظفر

جمال الخیر، جمال الاسلام

جمال الحسن

جلیل ع بزرگ، معزز، اعلیٰ

جمال ع حسن، خوب صورتی

جمشید ف ایران کے ایک بادشاہ کا نام

جمیل ع حسین، خوب صورت

جناب ع حضور، حضرت

جنید ع بغداد کے ایک مشہور ولی کا نام محمد جنید، جنید حسن

جودت حسین ، جودت علی	جودت ع تیزی ، ذکافت ، خوبی
جوہر الاسلام ، جوہر الزماں	جوہر ع قیمتی پھر ، لال
جوہر الحسن ، جوہر اللہ ک	

جہاں گیر ع دنیا کا لینے والا

اردو کانوں ، فارسی کا آنکھوں ، عربی کا
چھٹا حرف - ابجد میں اس کے بعد و مقریبیں

ح

حاتم ع عرب کے ایک مشہور تری کا نام	حاتم الزماں ، حاتم الاسلام
حاجب ع دریان ، پاسبان	حاذق ع ماہر بیکتا ، کامل
حاذق ع حافظت کرنے والا	حافت حادث ، حافت علی
حافظ حافظ ، حافظ الدین	حافظ الدین ، حافظ الاسلام
حاکم ع ملک کا والی ، افسر	حاکم الامر ، حاکم الامرور
حامد ع تعریف کرنے والا	حامد الحسن ، حاکم الزماں
حامدالدین ، حامد اللہ	حامدالدین ، حامدالرب
حامدالبرائی ، حامدالریب	حامد الحق ، حامد القرآن
حامد البرکات ، حامد الحسن	حامد البرکات ، حامد الحسن
	حامد الاسلام ، حامد الرحمن

حاتی	ع حاتی، طرف دار	حاتی	ع حاتی، طرف دار
حاوی	ع احاطہ کرنے والا۔ مابرہ	حاوی	ع احاطہ کرنے والا۔ مابرہ
جبیب اللہ	ع دوست	جبیب اللہ	ع دوست
جبیب الرحمن، جبیب اللہ		جبیب الرحمن، جبیب اللہ	
جبیب الرزاق، جبیب الکریم		جبیب الرزاق، جبیب الکریم	
جبیب الحق، جبیب الدین		جبیب الحق، جبیب الدین	
جبیب الحسن، جبیب الزمان		جبیب الحسن، جبیب الزمان	
جمۃ اللہ، جمۃ البالغہ	ع دلیل، بحث	جمۃ اللہ، جمۃ البالغہ	ع دلیل، بحث
جمۃ الاسلام، جمۃ النیر		جمۃ الاسلام، جمۃ النیر	
جمۃ الزمان، جمۃ الابرار		جمۃ الزمان، جمۃ الابرار	
حجازی	ع رسول کریمؐ کا لقب	حجازی	ع رسول کریمؐ کا لقب
حدیفہ	ع آخرت کے ایک صحابی کا نام	حدیفہ	ع آخرت کے ایک صحابی کا نام
حرمت	ع عزت، آبرد	حرمت	ع عزت، آبرد
حرمت الاسلام، حرمت الاعلام		حرمت الاسلام، حرمت الاعلام	
حرمت الحسن، حرمت الابرار		حرمت الحسن، حرمت الابرار	
حریص	لایجی	حریص	لایجی
حریص الاسلام، حریص النیر		حریص الاسلام، حریص النیر	
حسام الدین، حسام الحق	ع تلوار، تلوار کی دعا	حسام الدین، حسام الحق	ع تلوار، تلوار کی دعا
حسام اللہ، حسام الملۃ		حسام اللہ، حسام الملۃ	
حسام النیر، حسام الطفر		حسام النیر، حسام الطفر	
حسام الحسن، حسام القوی		حسام الحسن، حسام القوی	
حسان	ع بہت اچھا، بہتر	حسان	ع بہت اچھا، بہتر
حسن	ع خوب صورت، نیک	حسن	ع خوب صورت، نیک
حسیب	ع بزرگ، حساب لینے والا	حسیب	ع بزرگ، حساب لینے والا
عبد الحسیب، حسیب الدین		عبد الحسیب، حسیب الدین	

حیب الرحمن، حیب اللہ	حسین ؑ شکیل، خوب صورت	حضرت ؑ حضور، جناب، مخدوم
محمد حسین، حسین الہی	حشمت اللہ، حشمت الاسلام	حضرت ؑ کلر، تعظیم
حشمت اللہ، بزرگی	حشمت الحسن، حشمت الحق	حفض ؑ مشہور قاری کانام
حشمت الحسن، حشمت الحق		حفظ ؑ یاد، حفاظت، لحاظ
حفظ الرحمن، حفظ الکبر		حفیظ ؑ نیگران
حفظ الخیر، حفظ الباری		حق ؑ پچ، ولجب
حفظ الحسن، حفظ الحکیم		حقیق ؑ لائق سزاوار
حفیظ الدین، حفیظ اللہ		حکم ؑ ثالث، فیصلہ کرنے والا
حفیظ الاسلام، حفیظ الخیر		حکمت ؑ عقلمندی، دانائی
عبد الحفیظ، حفیظ الحق		حکیم ؑ دانا، محقق، دانش در
عبد الحق		
حکمت اللہ، حکمت الاسلام		
حکمت الخیر، حکمت الحسن		
عبد الحکیم، حکیم الدین		
حکیم الاسلام، حکیم الامم		
حکیم الزمان، حکیم البرکات		

حَلَّاج	ع منصور کا لقب
حَلِيف	ع عبد پیمان کرنے والا حلیف اللسان (قصص) حلیف الجود، سعی
حَلِیم	ع عبدالحلیم، حلیم الحسن
حَمَاد	ع بہت تعریف کرنیوالا حماد الرب، حماد الاسلام
حَمَادُ الْمُحْسِن	، حماد الکریم
حَمایت	ع طرف داری، مدد، حفاظت حمایت الاسلام، حمایت الخیر
حَمایتُ اللَّهِ	، حمایت اللہ، حمایت الحسن
حَمْد	ع تعریف، شنا
حَمْزہ	ع پھاٹنے والا شیر آنحضرت کے محمد حمزہ
حَمِید	چپ کانام مبارک
عَبْدُ الْحَمِید	، حمید اللہ
حَمِیدُ الدِّین	، حمید الدین
حَمِیدُ الْحَسَن	، حمید الحسن
حَمِیدُ الْمَلَك	
حَمِیْس	ع بہادر، تندرخو
حَمِیْم	ع دوست
حَنَان	ع رحمت کرنے والا، خدا عبد الحنان
حَنِیْف	ع دین کا سچا، حق کی طرف مائل محمد حنیف، حنیف الہی ہونے والا
حَوَارِی	ع مدگار، نصیحت کرنے والا
حَی	ع زندہ و قائم
حَیَات	ع زندگی، عمر حیات اللہ، حیات الحسن

حیات الاسلام، حیات الخیر

حیدر ع خونخوار شیر، حضرت علی کا لقب حیدر الاسلام، حیدر الحق
حیرت ٹ تعبہ۔

اردو کاد سوال، عربی کا ساتواں، فارسی کا توان حرف
اس کے ۴۰۰ عدد مقرر ہیں



خاتم ع آنحضرت کا لقب، آخری نبی
خادم ع خدمت گار

خادم الدین، خادم الرحیمان
خادم اللہ، خادم الحق
خادم الاسلام، خادم الحسن

خاقان ت بڑا بادشاہ
خالد ع ہمیشہ رہنے والا

خالد الحسن، خالد الدین
خالد الاسلام، خالد المظفر
عبد الخالق

خالق ع پیدا کرنے والا
خان ت سروار، رئیس، امیر

محقادور

خاور ف مشرق

عبد الخیر، خیر الاسلام

خیر ف دا قف، خبردار

محمد خرم، خرم حسین

خدا بخش ف خدائی بخشش

خرم ف تازہ، مسرور

خسرو ف خوب صورت، خوب رو

خشام	ع اوچی ناک والا، شیر
حضر	ع رئما، مشهور پیغمبر کنام حضرالاسلام، حضرالحق
خطاب	ع وعظ و نصیحت کرنیوالا محمد خطاب
خطیب	ع وعظ و نصیحت کرنیوالا خطیب الدین، خطیب زمان، خطیب المختر خطیب الاسلام، خطیب الحق، خطیب الرحمن
خطیر	ع بہت بڑا، عظیم، بلند
خلیفہ	ع جانشین، ولی عہد
خلیق	ع ملنسار، مروت والا
خلیل	ع سپا دوست
خواجہ	ف سردار، آقا
خورشید	ف سورج، آفتاب، روشنی
خوشکوارف	ف مزے دار، لذیذ، عجمہ
خیام	ف خیمه بنانے والا، فارسی کایک مشہور شاعر
خیر	ع نیکی، بجلائی، مال
خیرالناس	خیرالاخلاق، خیرالاسلام
خیرالدین	خیرالبشر، خیرالله
خیرالحسن	خیر من اللہ

خیرات دع اچھے کام تکیاں خیرات اللہ، خیرات الحق، خیرات الہدی
خیرات الدین، خیرات الحسن، خیرات الابرار

اردو کا گیارہواں، عربی کا آٹھواں، فارسی کا دسویں حرف
اس کے چار عدد ہیں

و

داع	بلانے والا، رسول کریمؐ کا لقب	داعی اللہ
دانش	ف عقل، شعور	محمد و انس، و انش الہی
داود	ایک مشہور پیغمبر	محمد داؤد
	و سنتیگر	محمد و سنتیگر
دلار	شجاع، بہادر	دلار و حسن
دلکش	خوش، خرم، ہمگن	دلشاوف
دلیل	مرغوب، پسندیدہ	مرغوب
دولت	خوشنا، دلچسپ	خوشنا
دیانت	راستی، انصاف	راستی
دین	منہب، ایمان	منہب

عربی کا نواں، فارسی کا گیارہواں، اردو کا تیرھواں
حرف اس کے ۰۰، عدد ۲۱۶

ف

ذکر نع ذکر کرنے والا
ذکار نع ذہانت، قرست، تیزی ذکار اللہ، ذکار الرحان
ذکار الحق، ذکار الاسلام
ذکار الحسن، ذکار الخیر
ذکارت نع ذین کی تیزی، ذہانت تیزی فہمی ذکارت اللہ، ذکارت الحسن
ذکر نع یادِ خدابیان ذکراللہ، ذکرالرب
ذکرالحق، ذکرالبخاری
ذکرالغفور، ذکرالحمد
ذکرالحسن، ذکرالخیر
ذکی نع ذہین تیزی فہم
ذوالجلال نع بزرگی والا
ذوالقریبین نع دوگی والا، یہ سکندر کا لقب ہے
ذولمنن نع احسانوں والا
ذوالنون نع حضرت یوسف کا لقب
ذہین نع تیزی فہم، ہوشیار ذہین الاسلام، ذہین الزماں
ذیشان ف شوکت والا

عربی کا دسواں، فارسی کا بارہواں، اردو کا چودھواں
حروف اسلوب کے ۲۰۰ عدد ہیں۔

ر

رابط	ع حکم، راہب، جوئنے والا رابط الخیر، رابط الجاش
راجح	ع والپس ہونے والا راجح الی اللہ
راحت	ع آرام راحت الحسن، راحت اللہ راحت الاسلام، راحت الفخر
راحم	ع رحم کرنے والا
راسخ	ع مضبوط، دیرپا راسخ الایمان، راسخ الخیر
راشد	ع سیدھا راست پانے والا راشد اللہ، راشد الاسلام راشد الخیر، راشد الحق
راعی	ع بہت الفت کر کنیو والا، جاک
راغب	ع خواہش خند کاں راغب الاسلام، راغب الدین راغب الحسن، راغب الخیر
رافع	ع بلند کرنے والا عبد الرافع، محمد رافع
راقب	ع استھا کرنا، راقب الالاقب، راقب حسین
ربانی	ع خدا رسمیہ بندگ

رحب الصدر	ع بڑے حوصلے کا آدمی
رحب الفهم	ع زیادہ عقائد
رحمٰن	ع مہربان
رحمت	ع مہربانی بخشش
رحمیم	ع مہربانی کرنے والا
رزاق	ع رزق دینے والا
رساف	پہنچنے والا، صائب
رسول	پیغمبر، قاصد
رشد	ع راہ راست، ہدایت
رشید	ہدایت یافتہ، مدبر
رسا	ع خوشنودی، مرمنی
رضوان	ع رضامندی، بہشت کا دریان

رضوی	ع پس بنت امام علی موسی رضا
رضی	ع پسندیده
رضی الدین	رضی الحق
رضی الاسلام	رضی الخیر
رضی الرحمن	رضی الحسن
رفاقت اللہ	رفاقت الحسن
رفاقت الخیر	رفاقت الودود
رفعت الاسلام	رفعت الدين
رفیع الدین	رفیع اللہ
رفیق الدین	رفیق الفتی
رفیق العزیز	رفیق الزماں
رفیق الحسن	رفیق الخیر
عبد الرقیب	عبد الرقیب
رقب الدین	رقب الدین
رکن الحسن	رکن الاسلام
رکن الدین	رکن الاسلام
روح اللہ	روح القدس
روح الاصلن	(جریل)
روشن علی	محمد روشن
رونق علی	
عبد الرؤوف	محمد رؤوف
رفیق	ع همراه خیرخواهی
رفیع	ع برتری، بلندی
رفیع	ع بلند مرتبہ، شریف
رفیق	ع همراه، دوست
رقیب	ع نگہبان، ہمسر
رکن	ع ستون، جزو اعظم
روح	ع جان
روشن	چمک دار، تاب ناک
رونق	چمک دک، تازگی
رفیق	ع کرم فرما

رئیس الاسلام، رئیس الدین	رئیس ۽ سوار
رئیس الحسن، رئیس الزمان	
ریاض الدین، ریاض الخیر	ریاض ۽ باع
ریاض الحق، ریاض الاسلام	
ریاض الحسن، ریاض الایمان	
ریحان الاسلام، ریحان الغیر	ریحان ۽ ایک خوبصوردار بودا
ریحان الحسن	

اردو کا سولہواں، عربی کا گیارہواں، فارسی کا تیرہواں
حرف۔ ابجد میں اس کے ہندو ہیں



زادہ الحسن، زادہ الزمان	زادہ ۽ متقی، پرہیزگار
زادہ الرحیم، زادہ الحق	
	زادہ ۽ زیارت کرنے والا
	زجاج ۽ علم خوکے ایک امام کا لقب
زعیم الحق، زعیم الدین	زعیم ۽ کفیل، ضامن، رئیس
زعیم الحسن، زعیم الاسلام	
محمد زکریا	زکریا ۽ ایک مشہور پیغمبر کا نام
محمد زکی، زکی الحسن	زکی ۽ پاک، صاف
	زمال ۽ عہد، وقت
	زمرد ف سبز رنگ کا قیمتی پتھر

زوار	ع بہت زیادہ زیارت کرنے والا
زياد	ع زیادہ ہوتا، زیادتی زیادۃ اللہ
زید	ع بڑھانا، ایک صحابی کا نام زیر الحسن، محمد زید
زین	ع آرٹسٹی، خوب زین الدین، زین العارفین
زیناللہ	زین الاسلام، زین العابدین
	زین الحسن، زین السالکین
	زین الحق، زین الایمان.

اردو کا اٹھارہوں، فارسی کا پندرہوں، عربی کا پانچہوں
حرف۔ اس کے ۶۰ عدد ہیں۔

س

سابق	ع اگلا، پہلا
ساجد	ع سجدہ کرنے والا ساجدۃ اللہ، ساجدۃ الرحیم
ساحر	ع سحر کرنے والا
سادات	ع حضرت فاطمہؓ کی اولاد سادات الزماں، محمد سادات
ساغر	ف جام، ٹکلاس
ساقی	ع پلانے والا ساقی الاسلام
سالار	ف سردار، راہنماء سالار احمد، سالار علی
سالک	ع پابند شرع بزرگ سالک الدین، سالک رب
	سالک الاسلام، سالک الخیر
سلم	ع محفوظ، پورا محسین، سالم

سائروں	ع سیر کرنے والا
سائل	ع مانگنے والا
سباچ	ع ایک نام
سبحان	ع پاک
سبحان اللہ	ع کلمہ تحسین
سبط	ع بیٹی یا بیٹے کی اولاد (سبط بنی اسریل رسول)
سبطین	ع حضرت امام حسن و امام حسین (سبط حسن، سبط احمد)
ستار	ع پرده پوش عبدالستار
ستجاد	ع بہت سجدے کرنے والا سجاد حسین، محمد سجاد
سمیان	ع عرب کا ایک مشہور فصیح و بلطف شاعر
سخاوت	ع بخشش، غایت سراج علی، سخاوت حسین
سراج	الاسلام، سراج الحق
	سراج الحسن، سراج الدولہ
	سراج الدین، سراج العارفین
	سراج البهدی، سراج السالکین
	سراج الخیر، سراج منیر
ستراج	ف سردار
سردار	ف سرغنا، حاکم سردار الہبی
سرفارز	ف سرپند سرفراز الرحمن
سرمد	ع داکم، ایک بزرگ کا لقب سرمد حسن، محمد سرمد
سرور	ف خوشی، مہتر سرور حسن، محمد سرور

محمد سرور، سرور حسن	سرور ف سروار، مالک
سطوت الاسلام، سطوت الدين	سطوت ف فرشتہ
سطوت الزماں، سطوت الحسن	سطوت ع دبدہ، رب
سطوت العارفین، سطوت السالکین	
سعادت اللہ، سعادت الزماں	سعادت ع نیک بنتی نیک
سعادت الحق، سعادت الحسن	
سعادت الاسلام	
سعد الدین، سعد اللہ	سعد ع نیک، مبارک
سعد الحق، سعد الزماں	
سعد الحسن، سعد الاسلام	
سعود الحسن	
سعید الدین، سعید اللہ	سعود ع مبارکباد اور نیک ہوتا
سعید الرحمن، سعید الرحمٰن	سعید ع نیک بنت، مبارک
سعید الرحمن، سعید الاسلام	
سعید اللہ، سعید الرحمن	
سفر الحق، سفر العارفین	سفیر ع قاصد، طیبی
سفر الحسن، سفر العابدین	
سفر الاسلام، سفیر البرکات	
محمد سکندر، سکندر علی	سکندر ع یونان کا نام اور فاتح
عبد السلام، سلام الدين	سلام ع سلامی، بندگی

سلام اللہ، سلام الحق

سلام الحسن

سلامت ع تندروست، بی یوب ہوتا سلامت اللہ، سلامت الاسلام

سلامت من اللہ

سلجوچ ت ایک بڑے بادشاہ کا نام

سلطان الزماں، سلطان العالم

سلطان ع بادشاہ، فرمانروا

سلطان الخیر، سلطان العارفین

سلطان الالکلین

سلمان الرشید، سلمان الارشد

سلمان ع نام و محبائی کا نام

سلیل ع بنگی تلوار، بچہ

سلیم الدین، سلیم الحق

سلیم ع تندروست، نیک، بردبار

سلیم اللہ

محمد سلیمان

سلیمان ع ایک شہپور سعیر کا نام

سُمیُّد ع فیاض، سردار، شریف

سُمیُّر ع رات کو باٹیں سنائیوالا

سمیع ع سننے والا

عبد السمیع، سمیع اللہ

سمیع الدین، سمیع الحق

سمیع الرحمن، سمیع الحسن

سنبل ع ایک خوشبودار گھاس

سہیل ع آسان، سیع، فرم

سہیل ع ایک چک دار ستارہ

سہیل الاسلام

محمد سہیل، سہیل احمد

سید ع	بزرگ، سوار، پیشوای سید السادات، سید العارفین
سیف ع	تلوار سیف الدولہ، سیف الرب سیف الدین، سیف الحق
	سیف الاسلام، سیف الحسن
	سیف اللہ، سیف النظر
	سیف الرحمن، سیف السالکین
	سیف العارفین

اردو کا انیسوائیں، عربی کا تیرہواں نارسی کا
سوہواں حرف۔ اس کے ۳۰۰ اعداد ہیں

شاد ف	خوش، بے غم
شاداب ف	قروتازہ، سیراب
شادان ف	خوش حال
شاذ ع	انوکھا، تنہا
شارق ع	چکنے والا، آفتاب
شاطر ع	بے باک، چالاک
شاغل ع	مصروف ہونیوالا
شافع ع	سفاہش کرنیوالا
شاسکر ع	شکرگزار، قانع
شاطرالاسلام، شاطر الزمان	
محمد شاغل	
عبد الشافع	
شاکر اللہ، شاکر الحسن	

شان الحق، شان الدین	شان ع قدر و مترلت، آن
شان الاسلام، شان الحسن	
شان اللہ، شان الہدی	
شاه الحیدر، شاه العرفان	شاه ف بادشاہ
شاه الاحسان، شاه الخیر	
شاه الحسن، شاه العالم	
شاه باز خاں	شاه باز ف شاہین
شاہد اللہ، شاہد الخیر	شاہد ع حامزہ، گواہ
شاہد الحق، شاہد الحسن	
شاہق الخیر	شاہین ف شہباز
	شاہق ع آرزو مند، طالب
	شاپیاں ف لائق، موزوں
	شباب ع جوانی
اور مشیر حضرت بارون کے شیر الدین، شیر الحق	شبیر شیر
بیٹوں کے نام، آنحضرت نبی ہنا شیر الاسلام، شیر الحسن	
حضرت امام حسن جیہن اور حسن کے شیر الہدی، شیر الزمان رکھتے۔	
شیر الحیدر، شیر الاحسان	شبیہہ ش شبیہت، مانند
شبیہہ الحسن، شبیہہ الرضا	
شجاع الدین، شجاع الحق	شبیع بہادر
شجاع اللہ، شجاع الرحمن	
شجاع الاسلام، شجاع الزمان	

شکور	شکر پسند	عبد الشکور
شکیب	صبر، بردباری	شکیل
شکیل	حسین، خوب صورت	شمس
شمس	آفتاب	شمس
شمشداد	ایک خوبصورت درخت کا نام	محمد شمشاد، شمشاد حسین
شممشیر	تلوار، تینغ	شمیم
شمیم	خوشبو، مہک	شمیم الدین، شمیم النظر
شوکت	دبدرہ، تپزی	شمیم الخیر، شمیم العارقین
شوکت	شوکت اللہ، شوکت اللہ	شوکت الاسلام، شوکت اللہ
شہاب	اگ کا شعلہ، روشن ستارہ	شہاب الدین، شہاب الحق
شہادت	گواہی	شہادت اللہ، شہادت اللہ
		شہادت الائیمان، شہادت الحسن
		شہادت التوحید، شہادت الاسلام

شجاعت اللہ، شجاعت الحسن	شجاعت ع بہادری، ولیری
شرف الحق، شرافت اللہ	شرف ع بزرگ
شرف الحسن، شرافت الاسلام	شرف بلندی، برتری
شرف الدین، شرف الاسلام	شرف ع بلندی، برتری
شرف الحسن، شرف النبیر	شرق پورب، افتاب
شریعت ع مذہبی قانون کا راستہ	شریعت ع مذہبی قانون کا راستہ
شرف ع بزرگ، عالی خاندان	شرف ع بزرگ، عالی خاندان
شرف الحسن، شرف الحق	شریق ع خوبصورت لڑکا
شور الدین	شریک ع ساتھی
شفاء اللہ، شفا، الملک	شور ع تمیز، عقل مندی
شفاء الامت، شفاء الحق	شفاء ع صحت
شفاعت البنی، شفاعت اللہ	شفاعت ع بخشوانا، سفارش کرنا
شفقت اللہ، شفقت الرسول	شفقت ع محبت، اخلاص، کرم
شفقت البنی، شفقت الحسن	شفیع ع بخشونا والا
شفیع الرحمن، شفیع اللہ	شفیق ع دوست، مہربان
شفیع الدین، شفیع الزماں	
شفیق الدین، شفیق الاسلام	
شفیق الرحمن، شفیق الزماں	

شهرت اللہ عاصم، شهرت الحق	چرچا، نیک، نامی
شهریار ف شہنشاہ، بڑا بزرگ	شہنشاہ، بڑا بزرگ
شهود ع حاضر ہونا	شاهزادہ
شهید ع نگواہ	شہید
شہیر ع مشہور	شہیر
شيخ ع بوڑھا، بزرگ	شيخ
شيخ الرئیس ع بوعلی سینا کا لقب	شيخ الرئیس
شیدا ف فریقتہ، مجنوں	شیدا

اردو کا بیسوائیں، فارسی کا سترہواں، عربی کا
چودہواں حرف اس کے ۹۰ عدد مقرر ہیں

ص

صابر ع صبر کنواں والاحضرت الیوب لقب محمد صابر، صابر جسین	صابر
صاحب ع ساکنی، دوست صاحب الایمان، صاحب الجمال	صاحب
صاحب الحسن، صاحب الکمال، صاحب الخیر صادق ع سجا، منصف	صاحب
صادق الدین، صادق القول، صادق الائین صادق، الوعد، صادق الزمان، صادق المکرم	صادق
محمد صاحع نیک، نیک پیغمبر کا نام	صاحب
صاحب الرائے، صائب القول درست، شمیک	صاحب

صائم	ع	روزتے رکھنے والا	صائم الدین، صائم الحق
صبا	ع	پورب سے چلنے والی ہوا	
صبح	ع	بہت خوب صورت	صبح الدین
صبغۃ	ع	رٹک	صبغۃ اللہ، صبغۃ الاسلام
			صبغۃ الحسن، صبغۃ الودود
صبور	ع	صابر	عبد الصبور
صیح	ع	گوڑا چٹا اور خوبصورت	صیح الدین، صیح الاسلام
صداقت	ع	سچائی، خلوص	صداقت اللہ، صداقت الحق
صدر	ع	ہر چیز کا شروع، سیستہ	صدر الدین، صدر الاسلام
			صدر الہدی، صدر الزیان، صدر الصدور
صدقۃ	ع	خیرات	صدقۃ اللہ، صدقۃ الکریم
صدیق	ع	پیارا دوست	
صدیق	ع	نہایت سچا	
صدیق الخیر			
صفیر	ع	چھوٹا، کم عمر	
صفات	ع	تعریف، علامتیں	
صفدر	ف	فعی کی صفوں کو جھاڑتیوالا	صفدر علی
صفوان	ع	چورس ہموار، پتھر	
صفی	ع	پاک، خالص، پجادوست	صفی اللہ، صفائی الرحمان، صفائی الدین،
صغریں	ع	چڑیوں کی آوار	صغریں الودود، محمد صغیر، صغیر حسن

صلاح الدين، صلاح الميز	صلاح ع دوستی، صلح کرنا
عبدالصمد	حمد ع بے نیاز
صمصام الحق، صمصام الدين	صمصام ع تیز توار
	صنان ع بہادر، شجاع
	صنوبر ع چیر کا درخت
	صوفی ع متقی، بیربریگار
حولت الاسلام، حوصلت الحسن	صولت ع رعب، ہیبت

اردو کا اکیسوں، فارسی کا اٹھارہوں، عربی کا
پندرہواں حرف۔ اس کے ۸۰ عدد مقرر ہیں

ض

ضار ع ضریب پونچانوالا، خدا
ضامن ع طرف دار
ضخمی ع پہردن جڑھنے کا وقت
ضرار ع مشہور صحابی کا نام
ضرغام ع شیر پچھڑنے والا، قوی
ضماد ع سیپ، بتلی رکانے کی دوا
ضمیر ع خیال، بھیض، دل
ضیاء ع روشنی
ضیاء الحق، ضمیر الحسن
ضیاء الدین، ضاء الحق
ضیاء الہدی، ضیاء العارفین
ضیاء اللہ، ضیاء السالکین

ضیاء الحق، ضیاء العارفین
 ضیاء الحسن، ضیاء الساجدین
 ضیاء الخیر، ضیاء العرفان
 ضیاء الہدی، ضیاء الایمان
 ضیاء الرحیم، ضیاء الرحمن

ضیغم ۽ پھاشنوا لاشیر، شیر ببر

اردو کا بیسوائیں، فارسی کا ایتسوائیں، عربی کا سو ہواں
 حرف اس کے ۹ عدد مقرر ہیں

طارق	ع	رات میں آئنوا لاصح کھانا طارق الاسلام، طارق الاصن
طالب	ع	طلب کرنے والا طالب اللہ، طالب الحسن
طالب الخیر، طالب البرکات		
طائع یار	ع	نصیب، قسمت طائع
طاهر اللہ، طاهر الاسلام	ع	پاک، صاف طاهر
طاهر الحسن، طاهر الایمان		
طیب	ع	حکیم، ڈاکٹر طیب
طس	ع	رسول کریم ﷺ کا نام طس
طفیل الحسن	ع	وسیلہ طفیل
محمد طلحہ	ع	ایک صحابی رضا کا نام طلحہ
طلعت حسین	ع	دیدار، نظارہ طلعت

طلق الیدين و سفی، فیاض	طلق اللسان و فصح، بلیغ
محمد طه، راحیں	طہ و رسول کریم کا نام
طہور اللہ، طہور الحسن	طہور پاک، پاک کرنیوالا
طہور الاسلام	
محمد طیب، طیب حسین	طیب و خوبیو، مذاق، پاک

اردو کا یہ سواں، فارسی کا بیسوں، عربی کا سترہوں
حروف ابجدیں ۹۰۰ عدد مقرر ہیں

ظ

ظاہر و محلہوا	عبدالظاہر، ظاہر الدین
ظریف و خوش طبع	ظاہر الحق، ظاہر الاسلام
ظفر و فتح، کامیابی	محمد ظریف، ظریف الحسن
ظفر و فتح، کامیابی	ظفر الحق، ظفر الہدی
ظفر الدین، ظفر الاسلام	ظفر الدین، ظفر الاسلام
ظفر الحسن، ظفر الزمان	ظفر الحسن، ظفر الزمان
ظفرائی، ظفریاب	ظفرائی، ظفریاب
ظفرموج، ظفرانجیب	ظفرموج، ظفرانجیب
ظفیر و کامیاب	بظفیر الحق، ظفیر الحسن
ظل و سایہ	ظل اللہ، ظل الرحمن
	ظل الرحیم، ظل الحسن

ظہیر	ع	ظہور ہونا
ظہیر	ع	معین، مددگار
ظہیر	ع	ظہیر الحق، ظہیر اللہ، ظہیر الدین
ظہیر	ع	ظہیر الحسن، ظہیر التجیر
ظہیر	ع	ظہیر الاسلام، ظہیر الجمال
ظہیر	ع	ظہیر الحق، ظہیر اللہ، ظہیر الدین
ظہیر	ع	ظہیر الحسن، ظہیر التجیر
ظہیر	ع	ظہیر الاسلام، ظہیر الحسن، ظہیر التجیر

ازدواج چوپیسوں، فارسی کا کیسوں، عربی کا
اٹھارہواں حرف۔ اس کے ۲۰، عدد مقرر ہے

ع

عابد	ع	عبد کرنے والا، عابد الرحمن
عابد	ع	عبد الحنف، عابد الرحیم
عابر	ع	غور کرنے والا، راہ گیر
عائف	ع	
عالق	ع	آزاد، بڑی مشکل، پرانی شراب
عاجز	ع	ناچار، مجبور
عاجل	ع	جلد باز
عادل	ع	انصاف کرنے والا، پرستیگار
عادل	ع	عادل الحسن
عادل	ع	عادل الزمان، عادل الدین
عارف	ع	چھپتے والا
عارف	ع	عارف اللہ، عارف الایمان
عارف	ع	عارف الحق، عارف التجیر

عارف الدین، عارف الاسلام
 عارف بالله
 عازم الخیر
 عاشق اللہ، عاشق بالله
 عاشق الرسول، عاشق الحسن
 عاشق الخیر، عاشق الجیب
 محمد عاصم، عاصم علی
 عاقل الزیان، عاقل الامان
 عالم الاسلام، عالم زمان
 عالم الخیر، عالم الحق
 عالم حسین، محمد عالم
 عبد العالی، محمد عالی
 محمد عامر
 محمد عامل
 عباد الرحمن، عباد الرحیم
 عباد الحق، عباد رب
 عباد الباری، عباد اللہ
 عبادت علی، عبادت حسین

عازم	ع قصد کرنے والا
عاشق	ع فریقتہ، چاہئنے والا
عاصم	ع تکہجان، حفاظت کرنے والا
عاطر	ع خوشبودار
عقاب	ع نائب
عقل	ع دانا، عقلمند
عالم	ع جانتے والا
عالیٰ	ع دنیا، جہاں
عالیٰ	ع دنیا کا لینے والا
عامر	ع بنند، برتر
عامل	ع آباد کرنے والا
عباد	ع عمل کرنے والا
عبادت	ع غلام، بندہ

عیاس	ع آنحضرت کے چھا کانام	محمد عباس، احمد عباس
عبد	ع بندہ، غلام، العظیل شاذ، کمشتر	ناموں کے ساتھ عبد کو جو مکر نام لختے
		کاظمیہ الفضل، جیسے عبد الرحمن
		عبدالکریم، عبد اللہ عبد الباری دعیو
عبدید	ع چھوٹا، غلام	عبداللہ، عبد الرحمن
		عبد الحق، عبد رب
		عبد الرحیم، عبد الرؤوف
عثیق	ع کہنہ اور پرانا، بزرگ	عثیق اللہ، عیسیٰ الحسن
		عثیق الرحمن، عیق الدین
عثمان	ع حضرت عثمان غنی رخ کانام	محمد عثمان، عثمان علی
عجب	ع انوکھا	
عجبیب	ع نادر، تراں	
عجیل	ع جد بازی، جد مکر نوازا	
عدل	ع انصاف، برابری	
عدیل	ع عادل یکسان	عدیل العدل، عدل الرحمن
		عدل اللہ، عدل الرب
		عدل الحسن، عدل الاسلام
		عدیل الحق، عدیل الزمان
		عدیل الامان، عدیل الرحمن
		عدیل الاسلام، عدیل الدین
عربی	ع رسول پاک کا لقب	

عَرْش	عَقْبَتْ تِنْجُوتْ، آسَان
عَرْفَان	عَبْحَانْتَا مَعْرِفَة
عَرْفَانُ الدِّين	عَرْفَانُ الْأَوَّلِيَا
عَرْفَانُ الْجَبَرِير	عَرْفَانُ الرَّبِّ
عَرْفَانُ الْخَسْن	عَرْفَانُ الْحَقِّ
عَرْفَانُ اللَّهِ	عَرْفَانُ الرَّحِيمِ
عَرْدَنْج	عَلْمَنْدِي، تَرْقَى
عَزْ	عَبْرَگَى، عَزْت
عَزَالِاسْلَام	عَزَالِاسْلَام
عَزْتُ الدِّين	عَزْتُ الدِّينِ، عَزْتُ اَلْاسْلَامِ
عَزْتُ الْحَسْن	عَزْتُ الْحَسْنِ
عَزْم	اَرَادَه، نَيْتْ، تَعْصِد
عَزْنِير	اَيْكَ بِغْرِيْبَ كَاتَم
عَبْدُ العَزِيزِ	عَبْدُ العَزِيزِ، عَزِيزُ الرَّحْمَنِ
عَزِيزُ الْحَقِّ	عَزِيزُ الرَّحِيمِ
عَزِيزُ الْحَسْنِ	عَزِيزُ الْوَدُودِ
عَزِيزُ الْقَدْرِ	عَزِيزُ الْعَارِفِينَ
عَزِيزُ اللَّهِ	عَزِيزُ الْحَسَنِينِ
عَزِيزُ الرَّبِّ	عَزِيزُ الْبَارِي
عَسْكَر	فُوج، لَشْكَر
عَسْكَرِي	سَپَاهِي
عَشْرَت	عِيشُ اَرَامْ خَواه
عَشْرَتُ اللَّهِ	عَشْرَتُ الْحَسْنِ

عشرت الاسلام، عشرت الخير

عطاء الرَّبِّ، عطاء الرَّحْمَن

عطاء الحق، عطاء الرحيم

عطاء الكَرِيمِ، عطاء الرَّوْفِ

عطاء الودود، عطاء الرَّشِيدِ

عطاء الْوَجِيدِ، عطاء العَزِيزِ

عطاء اللَّهِ، عطاء الحَمِيدِ

عطاء و بخشش

عطائخش ف آزاد

عظمت الدين، عظمت الله

عظمت الحسن، عظمت الاسلام

عظمت الخير، عظمت الزمان

عظيم الشان و بريشان والا

عظيم و بريبرگ

عفو و معاف نزا

عفيف و پريپرگار پارسا

عقیق

حین کا ایک سرخ قیمتی پھر عقیق الخیر، عقیق الحسن

عقیق الدین، عقیق الاسلام

عقیق الزمان، عقیق الہدی

عقیل الدین، عقیل الاسلام

عقیل و سمجھدار، دانا

عکرمہ	ع	ایک مشہور صحابی کا نام
علم الحق	ع	علم الدین
علاء الدین	ع	ایک مشہور بادشاہ کا نام
علی	ع	بلند اوچا
علیم	ع	جانتے والا
عبد العلی		
عبد العلیم		
علیم اللہ		
علیم الحق		
علیم الاسلام		
علیم التور		
علیم رب		
علیم الحسن		
علیم الخیر		علیم الزمان
عاءاللہ		عاءالدین
عاءالحق		عاءالاسلام
عاءالخیر		عاءالظفر
محمد عالم		عاءانہی
عندۃ الملک		
محمد عمر		
عمران الحق		
عمران الحسن		
عمران انہی		
عنایت اللہ		قصہ مہرماں ا توہج
عنایت رب		عنایت الحق
عنایت الرحمن		عنایت الحسن
عنایت الرحیم		عنایت الودود

عنبر	ع	ایک نہایت خوبصوردار ہوم
عندیب	ع	بلبل، ٹگل دم
عنوان	ع	سرخی، دیباچہ، ڈھنگ
عوام	ع	تیرپر محابی کے والد کاتانم
عوض	ع	پرلہ، قائم مقام
عون	ع	مدد
عیاف	ع	پناہ، پناہ لیننا
علیسی	ع	(امر)، ایک مشہور پیغمبر کا نام
عین	ع	پالی کا جشن، آنکھ، عمدہ
عون اللہ، عنوان الرب		
عیاذ بالله		
محمد علیسی		
عین الاسلام، عین الحسن		
عین الخیر، عین العارقین		
عین الدین، قرۃ العین		

۲۵ اردو کا یکیسوں / فارسی کا بائیسوں / عربی کا انیسوں
حرف اس کے ایک ہزار عدد مقرر ہیں



غازی	ع	کافروں سے لڑنے والا
غازی الحسن، غازی الخیر		
غازی الحق، غازی الزمان		
غالب	ع	زبردست، غلبہ والا
غیرب	ع	نادر، مسافر، عاجز
غزال الاسلام، غالب الحسن		
غريب الاسلام		

غضنفر	ع شیربر
غفار	ع بخشش کریوالا
عبدالغفار	ع بخش دینا، معاف کرنا
غفران	ع بخش دینا، معاف کرنا
غفور	ع معاف کریوالا
عبدالغفور، غفور الدین	ع معاف کریوالا
غفور الحسن	ع معاف کریوالا
غلام	ع خدمت کار، نوکر
غلام الدین، غلام السالکین	ع خدمت کار، نوکر
غلام التبی، غلام العارفین	
غلام الرسول، غلام السیدین	
غلام المصطفی، غلام الشقیلین	
غلام الاولیا، غلام الحسینین	
غلام الحسن، غلام مرتضی	
عبدالغنی	ع بنیاز
غوث الورثی	ع فریدرس، مددگار
غوث الدین، غوث الاسلام	
غوث اللہ، غوث الہی	
غوث الرسول، غوث السالکین	
غوث التبی، غوث العابدین	
غوث الزماں، غوث الشقیلین	
غوث الحیر، غوث العارفین	
غیاث الدین، غیاث الزماں	ع قریادرس
غیاث الہدی، غیاث الحسن	

غیاث العارفین، غیاث العابدین
 غیاث السالکین، غیاث النبی
 غیاث النبی، غیاث الاسلام
 غیاث الخیر، غیاث الدہر
 غیرت الاسلام، غیرت الزمان
 غیور الحق، غیور الدین
 غیور الحسن، غیور الاسلام

غیرت ع شرم، عار
 غیور ع شرمیلا، غیرت دار

اردو کا چبیسوں فارسی کا تیسواں، عربی کا
 بیسواں حرف اس کے عدد، مقرر ہیں

ف

فاتح ع کھوبنے والا، تلفیاب فاتح الاسلام، فاتح العالم
 فاخر ع فخر زیوالا، معزز فاخر الزیان، فاخر الحق
 فاخرالنبی، فاخرالحسن
 فاخرالاسلام، فاخرالنظر

فارس ع گھوڑ سوار
 فاروق ع حق و باطل میں فرق - فاروق الحسن، فاروق الاعظم
 کرنے والا فاروق الحق، فاروق الزمان

فاروقی ع حضرت عمر بن حفیظ سے منسوب
 فاضل ع بزرگ فاضل الاسلام، فاضل الزمان
 فاعل ع کسی کام کا کرتے والا فاعل الخیر

فائز	ع كام ياب، پنهنچ والا	فائز	ع بہتر، برگزیده
فالق	ع کھولنے والا	فالق	ع کامیا بی، بحیت
فتح	ع کامیا بی، بحیت	فتح	ع کامیا بی، بحیت
فخر	ع بزرگی، ناز	فخر	ع بزرگی، ناز
فدا	ع صدقہ، سرہما	فدا	ع صدقہ، سرہما
فدوی	ع جان شار	فدوی	ع جان شار
فراز	ع کشادہ، اپر	فراز	ع کشادہ، اپر
فراسبت	ع دانائی، تیز قمی	فراسبت	ع دانائی، تیز قمی
فراغ	ع آرام، بے فکری	فراغ	ع آرام، بے فکری
فرحان	ف مسرور خوش	فرحان	ف مسرور خوش
فراست	ف مسرور خوش	فراست	ف مسرور خوش

فرحت ع خوشی، خرمی، نشاط فرحت الدین ، فرحت اللہ
 فرحت الحق ، فرحت الایمان
 فرحت النبی ، فرحت الحسن
 فرحت الاسلام ، فرحت النظر

فرخ ف خوب صورب، مبارک
 فردوس ع جنت، بهشت
 فردوس الحسن ، فردوس الحق

فرزند ف اولاد
 فرقان ع حق و باطن میں فرق کرنیوالا فرقان الہی
 فروع ف شعاع، رونق
 فرید ع تہبا، بنے نظیر
 فرید الاسلام ، فرید النبی
 فرید الرسول ، فرید الحق
 فرید الحسن ، فرید الزمان
 فرید اللہ ، فرید الدین

فصاحت ع خوش کلامی، خوش بیانی فصاحت الاسلام
 فصاحت الحسن ، فصاحت العزیز
 فصیح ع خوش بیان، خوش گفتار

فصیح الكلام ، فصیح النظر
 فصیح اللہ ، فصیح اللسان
 فصیح الاسلام، فصیح الحسن
 فصیح الزمان، فصیح البیان

فضل ع برتری بخشش، بزرگ فضل اللہ ، فضل من اللہ

فضل الدین ، فضل الرب
 فضل الرشید ، فضل الرحیم
 فضل الرحمن ، فضل الکریم
 فضل الوحید ، فضل الرؤوف
 فضل العابدین، فضل السالکین
 فضل لعافین ، فضل الحسین
 فضل المبین ، فضل المتبین
 فضل الودود ، فضل الحق
 فضل المکیم ، فضل زیمان
 فضل الجیب ، فضل النبی
 فضل اللطیف ، فضل المحسن
 فضل الاسلام

فضیل	ع ایک ولی کاتام
فضیلت	ع برتری، بزرگی
فطرت	ع دانائی، پیدائش
فقیر	ع مفلس، ناوار
فقیہ	ع دانما، عالم تقدہ
نکر	ع سوچ، تردد، غور
فللاح	ع بہتری، خیریت

محمد فضیل
 فضیلت الاسلام، فضیلت المحسن
 فضیلت الزیان، فضیلت البنی
 فطرت المحسن ، فطرت الاسلام
 فقیر اللہ، فقیر المحسن
 فقیہ الاسلام ، فقیہ الدین
 فقیہ المحسن ، فقیہ الزیان
 نکر اللہ، نکر المحسن
 فلاح الاسلام، فلاح المحسن

فلاح الدین ، فلاح العالمین

فنا فی اللہ ع خدا کی راہ میں منا
فوا د الحسن ، فو د الاسلام
فوا د الخیر

فوز ع کامیاب ہوتا، ربائی پانا
فوق ع سبقت، فضیلت
فہیم ع دانا، عاقل

قہیم اللہ ، قہیم الدین
قہیم الحق ، قہیم السعید
قہیم الایمان ، قہیم الہدی
قہیم الاسلام ، قہیم الرحیم
قہیم الرحمن ، قہیم الخیر
قہیم الحسن ، قہیم الزمان
قہیم الکریم

فیاض ع سخن فیض پہنچانے والا
فیاض الحق ، فیاض الرحمن
فیاض الزمان ، فیاض الاسلام
فیروز الدین ، فیروز الحسن
شاہ فیصل
فیض الدین ، فیض اللہ
فیض الرحیم ، فیض الحق
فیض الرحمن ، فیض الملیم

فیروز سر کامیاب، فتح مند
فیصل ع نیاۓ گرنیوالا، حاکم
فیض ع بخشش کرم

فیض الوحید ، فیض الکریم
 فیض الغفار ، فیض الرب
 فیض الحسن ، فیض الایمان
 فیض الاسلام ، فیض الباری
 فیض الحکیم ، فیض العلم
 فیض الحمید ، فیض الودود
 فیض الشکور ، فیض الغفور
 فیض المحمد ، فیض الرشید
 فیض القوی ، فیض الہی
 فیض الغنی ، فیض الشہید
 فیض المی ، فیض القيوم
 فیض المعین
 فیضان الرب . فیضان الحق
 فیضان الہی ، فیضان اللہ
 فیضان الاسلام ، فیضان الحسن

فیضان ع پانی کا جاری ہوتا

اردو کاستائیسوں ، فارسی کا چوبیسوں ، عربی کا
 اکیسوں خرف اس کے ایک سو عدد مقرر ہیں :

ق

قآن ت عادل ، دانا
 قالبض ع قبض کرنوالا ، خدا

ع	لائق، پسندیدہ	قابل
ع	قدرت والا	قادر
ع	بانٹے والا	قاسم
ع	ارادہ کرنیوالا، الپی	قادص
ع	محصور، لچادر	قاصر
ع	منصف، اداکریں والہ	قاضی
ع	کامنے والا	قاطع
ع	خاموش، فرمان بردار	قانت
ع	صابر	قانع
ع	زور آور، طاقت ور	قاہر
ع	مضبوط، موجود	قائم
ع	پاتنا تسلیم کرنا	قبول
ع	گروہ، قسم، خاندان	قبیل
ع	اندازہ، حکم	قدر
ع	قوت، طاقت	قدرت
ع	پاک، پاک ہونا	قدس
ع	نیک بندے، فرشتے	قدسی

قدوس ع بڑا پاک	عید القدس، قدوس الحسن
قدیر ع طاقت و رہ قادر	عبدالقدیر، قدیر اللہ
	قریب الحسن، قدریر الاسلام
قربان ع خیرات، صدقہ	قریبان الحق، قربان الحسن
	قربان الہبی
قرۃ ع ٹھنڈک	قرۃ العین، قرۃ الحسن
	قرۃ الاسلام
قرب ع پاک انزو دیک	محمد قریب، قریب حسین
قریشی ع قبیلہ قریش سے منسوب	
قریباش ت لال سروالا	
قسم ع حسین، حصہ دار	قسم الدین، قسم الزماں
	قسم الحق، قسم الحسن
قطب ع برگ، ولی، سردار	قطب الزماں، قطب الاسلام
	قطب الدین، قطب العارفین
	قطب الظفر، قطب الافطاں
قلندر ف آزاد ادمی	
قمر ع چاندی، چاند	قرالاسلام، قمر السعادت
	قرالدین، قرالتوحید
	قرالحق، قرالنظر
	قرالظفر، قرالہدی
	قرالزماں، قرالحسن

قوی اللہ ، قربات	ع زوراً و مضبوط	قوی
عبد القوی ، قوی الحسن	ع	
قوی الدین ، قوی الزمان	ع	
	ع مضبوط، استوار	قویم
	ع قبر کرنے والا، خدا	قہار
قیام الدین	ع سکونت، تحریر اور	قیام
	ع عرب کا مشہور عاشق	قیس
	ع شہنشاہ	قیصر
قیصر الدین ، قیصر الاسلام	ع	
قیصر الزمان ، قیصر الہدی	ع زندہ، بگیان	قیوم
	عبد القیوم ،	

اردو کا اٹھائیسوائیں، فارسی کا پیسیسوائیں، عربی کا
پانیسوائیں حرف۔ اس کے ۲۰ عدد میں

ک

کامدار	ت عہدہ دار منصب دار
کاشف	ع ظاہر کرنے والا، کھولنے والا
کاظم	ع غصہ ضبط کرنے والا، امام موعی کا لقب کاظم حسین
کامل	ع پورا، ماہر
	کامل الاسلام، کامل الحسن
	کامل الزمان
کباش	ع

کبیر	ع بڑا
کرار	ع برادر حمد کرنے والا، حضرت علیؑ کا لقب
کرامت	ع اونکھی چیز
کریم	ع داتا، سخن
کشف	ع کھتنا
کفایت	ع کافی ہونا
کفیل	ع ذمہ دار، ضامن
کلام	ع بات، قول
کلیم	ع بات کرنے والا
كمال	ع ہنر، خوبی، پورا

عبدالبکیر، بکیر الدین
بکیر الاسلام، بکیر الحسن
کرار حسین

کرامت اللہ
عبدالکریم، کریم اللہ
کریم الحق، کریم الدین
کریم الخیر، کریم الحسن
کشف الایمان، کشف الخیر
کفایت اللہ، کفایت الحق
کفیل الرحمن
کلام رب، کلام اللہ
کلام الرحمن، کلام الحق
کلام الحکیم، کلام الملوك
کلیم اللہ، کلیم الدین
کلیم الحق، کلیم الرحمن
کلیم الزیان، کلیم الاسلام
کلیم الحسن، کلیم العزیز
كمال الدین، کمال الحسن
كمال الحق، کمال اللہ

کوثر ع بہشت کی ایک نہر کوثرالاسلام، کوثرالحق
 کوکب ع تمارا، روشن ستارہ
 کیف ع سُورَ کیف الایمان
 کیف الخیر

اردو کا ایسواں، فارسی کا چھیسوائیں حرف
 حسابِ جمل میں اس کے ۲۰ عدد میں

ح

گرامی ف معمظم، محترم، مفتخر
 گل ف پھول، گلاب کا پھول
 گلگلیز ف پھلگلیزی
 گنج ف گنجینہ، خزانہ
 گنجخش ف ایک دلی کاتام
 گوہر ف موئی، ذات، اصل

اردو کا ایسواں، فارسی کا ستائیسواں، عربی کا
 تیسواں حرف اس کے ۳۰ عدد میں

ل

لائق ع قابل، جائز
 لبیب ع زیرک، دانا
 لسان ع زبان، بولی
 لسان الغیر، لسان الاسلام، لسان الحسن
 لسان الصدق

سان الدین ، لسان الفخر

لطف	ع بہت فرمی برستنے والا
لطافت	ع نرمی ، خوبی ، باریکی
لطف	ع لذت ، عدگی ، نرمی
لطاف	ع نرمی ، خوبی ، باریکی
لطافت	ع لطف اللہ ، لطف الحق ، لطف الحسن
لطاف	ع لطف العزیز ، لطف الہی ، لطف الخیر

لطیف	ع باریک پین
لقا	ع شکل ، دیدار
لقمان	ع وانا ، تحریر کار
لطف	ع ایک مشہور سیغیر کا نام
لیاقت	ع قابلیت ، خوبی ، تمیز
لیق	ع لائق ، قابل
لیث	ع شیر ، حوش بیان

لیاقت اللہ	، لیاقت الحسن
لیق الاسلام	، لیق الزمان
لیق الحسن	، لیق الدین

ابواللیث

اردو کا اکیسوائیں ، فارسی کا اٹھائیسوائیں ، عربی کا
چوبیسوائیں حرف۔ اس کے ۳۰ عدد مقرر ہیں

ماجد	ع بزرگ ، قابل احترام
ماجد	عبدالماجد ، ماجد الاسلام
ماجد	الحسن ، ماجد الخیر

ماشا اللہ ع خدا جو جا ہے

مالک	ع آقا	عبدالملائک
مامون	ع معتبرآدمی	مامون الرشید ، مامون الزمان مامون الحسن
ماشع	ع بازرگتھے والا، خدا	ماہر
ماہر	ع استاد کامل، واقف کار، ماہر الاسلام ، ماہر العلوم	ماہنگان
مبادر	ع سپاہی	مبادر زالدین
مبارک	ع خجستہ، مژوہ	مبارک اللہ
مبیدہ	ع فی البیته بولنیوالا	مبیدی
مبیدی	ع پیدا کرنیوالا، اللہ	مبیدی
مبعد	ع سرد ایک بخوبی کاتام	مبعد
مبشر	ع خوش خبری دینے والا	مبشر الدین ، مبشر الاسلام مبشر الخیر ، مبشر الزمان مبشر الحسن ، مبشر الفخر
مبصر	ع پر کھنے والا	مبصر
مبلغ	ع پہنچانے والا، واعظ	مبلغ الدین ، مبلغ الاسلام مبلغ الحق ، مبلغ الخیر
مبین	ع ظاہر روشن، صاف	مبین الدین ، مبین الدین مبین الحق ، مبین الخیر مبین الاسلام ، مبین الجلال
متعال	برتر	عبدالتعالیٰ برنگ

متقی	ع پرہیزگار، عابد	محمد متقی، متقی احمد
مُتکبر	ع خود پسند، مغزور	
متوسط	ع رسول اللہ کا لقب	
متین	ع مضبوط	عبداللئین، متین الحسن
مجاز	ع رہ گزر خلاف حقیقت	
مجاہد	ع خدا کی راہ میں لڑنے والا	مجاہد الاسلام، مجاہد الحق
مجاہد الدین	،	مجاہد الزمان
مجاہد الخیز	،	مجاہد الاسلام
مجتبی	ع چناہوا، رسول کریم کا لقب	محمد مجتبی، مجتبی حسن
مجتہد	ع کوشش کرنے والا	مجتہد الاسلام، مجتہد الزمان
مجد	ع نیا کرنے والا	مجد الاسلام
محب	ع قبول کرنے والا	عبدالحیب، محیب الدین
		محب الحق، محب الحسن
		محب الرحم، محب الرحمان
		محب اللہ، محب الاسلام
محید	ع بزرگ	عبدالمحید، محید اللہ
		محید الحق، محید الحسن
محاسب	ع حساب کرنے والا	محاسب الاسلام، محاسب سنس
محافظ	ع ولی، دربان	محافظ الاسلام، محافظ الدین
		محافظ الخیز، محافظ الحق
محب	ع دوست مجتکری والا	محب اللہ، محب الرحمن

محب الرحیم ، محب الحق
 محب الدین ، محب الودود
 محب الخیر ، محب الحسن
 محب العارفین ، محب العابدین
 محب الاسلام ، محب العزیز
 محبوب الحق ، محبوب الرحیم
 محبوب اللہ ، محبوب الرحمن
 محبوب العابدین ، محبوب الاولیاء
 محبوب الحسن ، محبوب الحسین
 محبوب الزمان ، محبوب الہی

محبوب ع دوست ، پیارا

محتشم ع تیس ، حشمت والا
 محرم ع قربی دوست
 محسنان ع بہت بھلائی کرنیوالا
 محسن ع مدعاگار ، بھلائی کرنیوالا
 محسن الاسلام ، محسن الملۃ
 محسن الحق ، محسن الملک
 محسن الزمان ، محسن الرحمن
 محسن اللہ ، محسن الدین

محلل ع طلاق کرنیوالا ، رسول خدا کانام
 محمد ع تعریف کیا ہوا ، بنی کریم کے
 ناموں میں سے کوئی بھی نام
 پچوں کیلئے رکھ سکتے ہیں۔

مَحْمَدٌ أَحْمَدٌ حَامِلُ مَحْمُودٍ	
تعریف والا زیادہ حمد کرنے والا سرہاگی	
قَاسِمٌ عَاقِبٌ فَاتِحٌ خَاتِمٌ	
باٹنے والا پیچھے آنے والا کھولنے والا	
سَوَاجٌ حَاسِرٌ دَاعٌ	
محکرنا والا اٹھنے والا چراغ بلانے والا	
رَشِيدٌ مَنِيرٌ نَذِيرٌ	
نیک نور والا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا	
رَسُولٌ نَبِيٌّ	
رسول نبی رسول و الہادیت والا	
مَرْمِلٌ مَدَّثِرٌ	
مکمل والا چادر اور مرضھنے والا	
كَلِيلٌ شَفِيعٌ	
کلام کرنے والا جانی دوستی شفاعتی والا	
مَرْتَضٰيٌ مُجْتَبٰيٌ مُخْتَارٌ	
مرتضی محبی مختار پناہ برازیدہ	
نَاصِرٌ مَنْصُورٌ	
پسندیدہ پناہ مدد و دینے والا مدد دیا گیا	
شَهِيدٌ حَكِيمٌ نُورٌ	
گواہ حکمت والا نور عدل والا	

حَجَّةُ	مُؤْمِنٌ	أَبْطَحٌ	بَرَهَاتٌ	حَجَّةُ
دليـلـ	ايمـانـ والـا	ابـطـحـ والـا	جـتـسـهـ	دليـلـ
مـطـيـعـ	آيمـانـ والـا	فـذـكـرـ وـاعـظـ	فـذـكـرـ	مـطـيـعـ
تاـبـدـارـ	آيمـانـ دـارـ	وـاعـظـ	نـصـحـتـ والـا	تاـبـدـارـ
صـادـقـ	آيمـانـ دـارـ	سـاطـقـ	مـصـدـقـ	صـادـقـ
سـيـتاـ	دوـسـتـ سـاهـنـيـ	بـولـنـهـ والـا	بـعـ بـولـنـهـ والـا	سـيـتاـ
مـكـنـوـتـ	هاـشـمـيـ	عـرـبـ	مـدـنـيـ	مـكـنـوـتـ
مـكـنـهـ	هاـشـمـيـ	عـرـبـ وـالـا	مـدـنـهـ وـالـا	مـكـنـهـ
قـرـشـيـ	حـرـيـصـ	غـزـيرـ	أـهـمـ	قـرـشـيـ
قـرـشـيـ	نيـبـونـ پـرـوـشـ پـرـنـيـوـالـا	غـالـبـ	انـپـڑـهـ	رـوـفـ
رـوـفـ	غـنـيـ	يـتـيـمـ	رـحـيـمـ	رـوـفـ
نـرمـ دـلـ	بـلـ بـرـواـهـ	يـتـيـمـ	حـمـ وـالـا	جـوـارـ
سـيـ	طـيـبـ	عـالـمـ	فـتـاحـ	سـيـ
طـاـهـرـ	پـاـکـ	جـاتـنـهـ وـالـا	فـتحـ کـرـنـيـوـالـا	طـاـهـرـ
پـاـکـ کـرـنـهـ وـالـا	فـصـيـحـ	خـطـيـبـ	مـطـهـرـ	سـيـدـ
سـيـدـ	فـصـيـحـ	وـاعـظـ	پـاـکـزـهـ	سـيـدـ
سـرـدارـ	بـاـسـ	إـمـامـ	مـنـقـيـ	شـافـ
شـفـادـيـنـهـ وـالـا	بـيـكـ	پـيشـواـ	صـافـ کـرـنـيـوـالـا	شـافـ
مـقـتـصـدـ	مـقـتـصـدـ	سـاـبـقـ	مـتـوـسـطـ	مـقـتـصـدـ
مـيـازـرـ وـالـا	مـيـازـرـ وـالـا	آـگـهـ جـانـهـ وـالـا	مـتوـسـطـ	مـيـازـرـ وـالـا

مَهْدِيٌّ	حَقِيقَةِ مُبِينٍ أَوَّلَهُ	بِرَأْيَتِ دِينِ وَالَا
سَچا	ظَاهِرٌ اَوْلَ	ظَاهِرٌ
يَكْفَلُ	ظَاهِرٌ مَحَلِّلٌ	ظَاهِرٌ مَحَلِّلٌ
مَحَلِّلٌ	مَحَرَّمٌ شَاهِدٌ مَتَيْنٌ	مَحَرَّمٌ شَاهِدٌ مَتَيْنٌ
حَلَالٌ كَرْنِيَا لَا	حَرَامٌ كَرْنِيَا لَا	حَرَامٌ كَرْنِيَا لَا
كَامِلٌ	مَشْهُودٌ مَكْرَمٌ اَمْرٌ	مَشْهُودٌ مَكْرَمٌ اَمْرٌ
بَاهِرٌ	مُوْجُودٌ بَزْرَگٌ	مُوْجُودٌ بَزْرَگٌ
بَاهِرٌ	شَكُورٌ قَرِيمٌ هُنْدِيٌّ	شَكُورٌ قَرِيمٌ هُنْدِيٌّ
مُنْعَى كَرْنِيَا لَا	شَكَرْ كَرْزَارٌ	شَكَرْ كَرْزَارٌ
صَبَلَغٌ	قَرِيبٌ طَسٌ حَاتَمٌ حَسِيْبٌ	قَرِيبٌ طَسٌ حَاتَمٌ حَسِيْبٌ
بَهْنِچَانَه وَالَا	بَهْنِچَانَه وَالَا	بَهْنِچَانَه وَالَا
أَوْلَى	بَهْتَرٌ	أَوْلَى

مُحَمَّد ع پِسْنِدِيَّدَه مُحَمَّد الرَّحْمَن ، مُحَمَّد الرَّحْق

مُحَمَّد الْخَن ، مُحَمَّد اللَّه

عَبْدُ الْمُحَمَّد ، عَمَّيُ الدِّين

عَمِيُّ الْاسْلَام

مُحَيَّطُ الدِّين ، مُحَيَّطُ الزَّمَان

مُحَيَّطُ الْاسْلَام ، مُحَيَّطُ الْخَيْر

مُخْتَارُ الدِّين ، مُخْتَارُ الْخَن

مُخْتَارُ الزَّمَان ، مُخْتَارُ النَّبِي

مُحَمَّد ع زَنْدَه كَرْنِيَا لَا

مُحَيَّط ع كَهِيرَتِي وَالَا

مُخْتَار ع آزاد ، پِسْنِدِيَّدَه

مختار الرحمن ، مختار الہدی

مختار اللہ ، مختار الہی

مخروم ع آقا، مالک، قابل تغظیم مخدوم احمد، مخدوم حسین

مخراق ع خوب صورت جسم والا، سمی

مخشف ع راہبر دلیر

مدبر ع صاحب تدبیر، داتا مدبر الاسلام ، مدبر الزمان

مدبر الحسن ، مدبر الدین

مشتر ع رسول کریم کا لقب

مدحت الہی ، مدحت علی

مدینۃ النیر ، مدینۃ العلم

مذکر الاسلام ، مذکر النیر

مذکر الحسن ، مذکر اللہ

مراتب ع درجات

مراد ع مقصد، آرزو، مطلب مراد الاسلام، مراد الحق، مراد الحسن

مراد العذر، مراد الدین، مراد السیم

میربی ع پائیے والا، سرپست

مرتضی ع پسندیدہ حضرت علی کا لقب محمد مرتضی، مرتضی حسین

مرتضنبوی ع حضرت علی سے نسبوں

مرزا ف امیرزادہ مرزا احمد، مرزا حسین

مدنی ع رسول اللہ کا لقب

مرزوق	ع خوش بخت
مرسل	ع بیجاگیا
رشد	ع پیر استاد
مرشد	ع مرشد العارفین، مرشد الحسن
مرغوب	ع پسندیده
مرفل	ع آنحضرت کا لقب
مستان	ع متوالا، مجتوئ
مستجاب	ع جواب دیا گیا (قبول کیا گیا)
مستحسن	ع خوب، بہتر
مستکم	ع پائیدار، مضبوط
مستطاب	ع پاک ہبز، دار خوش
مستظہر	ع مدد کا طالب
مستعین	ع مدد کا خواہاں
مستفید	ع فائدہ چاہئے والا
مستفید الحسن	ع مستفید الحسن، مستفید الحق
مستفید الاسلام	ع مستفید الغیر
مستقیم	ع سیدھا، مضبوط
مستنیر	ع روشنی، روشی کا خواہاں
مسرور	ع خوش
مسعود	ع نیک، سعادت مند
	مسعود الرحمن، مسعود الحسن

مسعود النبی ، مسعود الزماں

مسعود القفر ، مسعود الحق

مسلم ع مسلمان ، مومن

محمد مسلم

مسلمان ع مومن

میسع ع حضرت عیسیٰ کا لقب میسع النبی ، میسع الحسن

میسع الزماں ، میسع اللہ

میسع الدین ، میسع الحق

شارب ع شرب کی تجھیز ، ہمی طریقہ

مشاهدہ ع معائنہ کرنا

مشاهدہ الحق ، مشاهدہ الخیر

مشتاق الہی ، مشتاق الحسن

مشتاق العارفین ، مشتاق النظر

محسmed مشرف ، مشرف حسین

مشفق الحسن ، مشفق الاسلام

مشفق الدین ، مشفق الزماں

مشکور اللہ ، مشکور النبی

مشہود الحق ، مشہود الحسن

مشیت اللہ ، مشیت الحق

مشیت الرحمن ، مشیت الرحیم

مشیر ع صلاح کار ، رائے دنیو والا مشیر الحق ، مشیر الاسلام

مشیر الدین ، مشیر الحسن

شرفیافتہ ، بلند

مشفق ع مہربان ، دوست

مشکور ع ممنون ، پسندیدہ

مشہود ع حاضر ، موجود ، ظاہر

مشیت ع مرضی ، قسمت

مشیر ع صلاح کار ، رائے دنیو والا مشیر الحق ، مشیر الاسلام

مشیر الدین ، مشیر الحسن

مصباح ع چراغ	مصباح الدین، مصباح العلوم
مصدق ع یقین کرنے والا	مصباح الحق، مصباح الاسلام
مصدق ع یقین کرنے والا	مصباح الرسول، مصباح النبی
مصدق ع یقین کرنے والا	مصباح الغیر، مصباح اللہ
مصلح ع درست کرنیوالا، رسول اکرم کا نام	مصباح الرحمن، مصباح الرحیم
مصلح ع درست کرنیوالا، رسول اکرم کا نام	مصباح الہدی، مصباح الحسن
مصلح ع درست کرنیوالا، رسول اکرم کا نام	مصدق الدین، مصدق الحسن
مظہر ع پاک کرنیوالا	مظہر ع چاہوا، رسول اکرم کا قب
مظہر ع پاک کرنیوالا	مصلحت ع اچھا مشورہ، خوب
مصور ع نقاش	مصور الغیر، مصور الزمان
مضنی ع رسول اللہ کا قب	مضنی ع رسول اللہ کا قب
مضطر ع بے چارہ، بے بس	مضطر ع بے چارہ، بے بس
مطلوب ع بانگا ہوا، مجوب	مطلوب ع بانگا ہوا، مجوب
مطلوب ع بانگا ہوا، مجوب	مطلوب البھن، مطلوب البھن
مطلوب ع بانگا ہوا، مجوب	مطلوب البھن، مطلوب البھن
مطلوب ع بانگا ہوا، مجوب	مطلوب العابدین، مطلوب الحسن
مطلوب ع بانگا ہوا، مجوب	مطلوب الحق، مطلوب البھن
مطلوب ع بانگا ہوا، مجوب	مصطفی ع چاہوا، رسول اکرم

مطیب ع خوشبو دینے والا
مطیع ع خادم، خدمتگار

مطیع الرسول، مطیع النبی
مطیع الحسن، مطیع الرشید
مطیع الدین، مطیع الاسلام
مطیع الرحیم، مطیع الرحمن
مطیع العزیز، مطیع الکریم
مطیع اللہ، مطیع الباری
منظف الدین، مظفر الحق
منظف الاسلام، مظفر الغیر
منظف الحسن، مظفر الزمان
منظف الملته، مظفر الجیب

منظف کامیاب، فتح مند

منظہر ع ظاہر جوئیکی جگہ، تظارے، آگواہ مظہر الحق، مظہر الدین
منظہر الاسلام، مظہر اللہ
منظہر الحنی، مظہر الہی
منظہر النبی، مظہر الغیر
منظہر الحسن، مظہر العلوم

معاد ع والپس جانے کی جگہ، آفرت

معاون ع مددگار
معاون الاسلام، معاون الغیر
معاون الہی، معاون الحق

معزز ع خواب کی تعبیر دینے والا
معرف ع اقراری

معتصم	ع مدومائے والا	معتصم بالله
معتمد	ع جس پر کہو کیا جائے	معتمد علی اللہ، متعمر الاسلام
معجزات	ع مبجزے	
معراج	ع سیرہ ص	معراج الاسلام، معراج الدین
		معراج الحسن ، معراج الحق
معرفت	ع فرید، خدا شناس	معرفت الحق
المعروف	ع مشہور، ظاہر	محمد معرف
معزز	ع عزت دین والا	عبد العزز، معزز الدین
		معزز الاسلام
معزز	ع باوقعت، شریف	معزز الدین
معصوم	ع پاک دامن بگناہ	معصوم الحسن، معصوم الزمان
		معصوم الحق، معصوم الاسلام
معطی	ع دینیہ والا، خدا کا نام	عبد المعنی
معظم	ع بزرگ، شریف	محمد معظم
معمار	ع تغیر کرنے والا	معمار الحسن، معمار الخیر
معمور	ع آباد، بخراہوا	معمور الدین، معمور التور
معوان	ع مددگار	
معید	ع لوٹنے والا	
معین	ع مدد کرنے والا	
		معین الدین، معین الحق
		معین الحسن، معین الہدمی
		معین الاسلام، معین الابرار

عبد المغنى	ع	بینیاز کرنے والا
مغيث الدين	ع	فریادرس
مقتاح الدين	ع	کنجی
مفتاح الاسلام	ع	مفتاح العلوم
مفتح	ع	کھولنے کی جگہ خزان
مفتون	ع	فتنہ میں پڑا ہوا
مفتی	ع	شرعی حاکم
مفضل	ع	بہت احسان کرنے والا
مفضل	ع	وقیت دینے والا
مفکر	ع	سوچنے والا
مفہوم	ع	کامیاب کرنے والا
مفید	ع	سودمند
مفیض	ع	فیض پہنچانے والا
مقبول	ع	ماٹگیا، عجوب
مقبول	ع	مقبول الہی
مقتدا	ع	امام جس کی پیر وی کریں محمد مقتدار
مقدار	ع	زور اور
مقدار	ع	عبد المقدر
مقصد	ع	سیانہ رو، رسول کرم کا القب
مقدار	ع	تقدير
مقدم	ع	پہلا، مذوری، اونچا
مقبيل	ع	خدا کا حکم مانتے والا

مقدور	ع زور، قابو، گنجائش
مقصد	ع مراد، مطلب
مقصود	ع مطلب، غرض
مقصود الحق	مقصود الحق
مقصود الرحيم	مقصود الرحيم
مقصود اللہ	مقصود الباری
مقیت	ع روزی دینے والا
مکرم	ع بزرگ
مکی	ع مک والا، آنحضرت کا قب
ملک	ع بادشاہ
ملک العزیز	ملک الحق
ملک السعادت	ملک الزمان
ملک النظر	ملک الكلام
ملنگ	ف بے خود، بے ہوش
متاز	ع نام و رشیق
ممنون	ع احسان مند
ممیت	ع مارنے والا، خدا کا نام
ممیز	ع امتیاز کیا ہوا
منظار	ع نظارے
منظار الحسن	منظار الحق
منظار الخیر	منظار الاسلام
منظار الہی	منظار الہدی

منان	ع بڑا احسان کرنیوالا، خدا عبد المنان
منتقم	ع بدال لینے والا
مشتی	ع انتہا کو سمجھنے والا
منشا	ع ارادہ، سبب
منصب	ع عہدہ، کام
منصف	ع عادل، حاکم
منصور	ع مدد کیا ہوا
منظظر	ع جائے نظر، سیرگاہ
منظور	غ مانا ہوا، پسندیدہ
منعم	ع مال دار، غنی، امیر
منقاد	ع مطیع، فرمان بردار
منور	ع روشن، چیکیلا
منہاج	ع راستہ، کھلی راہ گذر

محمد منصف
منصور الحق، منصور الہری
منصور الحسن، منصور الاسلام

منظور الحق، منظور النبی
منظور الحسن، منظور اللہ
منظور الحکیم، منظور الرحمن
منظور الباری، منظور الجیب
منظور الملک، منظور النبی

منور الدین، منور الحق
منظور الاسلام، منوز الہری
منہاج الدین، منہاج النبی
منہاج الاسلام، منہاج الحق

منہاج السلام، منہاج السراج

منہاج اللہ، منہاج السعادت

میب ع حق کے طف پھرنے والا شیب الحسن، میب الدین

شیب الرحمن، شیب الحق

منیر ع چکیلا، تابناک، میر الزمان

میر الحق، میر السلام

میر الحسن، میر العبدی

مودود ع خدا کو ایک ماٹے والا

موسیٰ ع دوست، محبوب

موفق ع ایک پیغمبر کا نام

توفیق دینے والا موفق الرحمن

موقر ع معزز، حلیم

مولانا ع مدحکار، مالک

مولانا علی ع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب

مومن ع ایمان والا، امن دینے والا محمد مومن، عبد المؤمن

مہتاب ف چاندنی، چاند محمد مہتاب، مہتاب الدین

مہدی ع بریت کیا ہوا رہنا مہدی الاسلام، مہدی الزیان

مہدی الحسن، مہدی الحق

مہر ف پیار، سورج، دوستی مہر الہی

میر ع سروار، بادی محمد میر

میران ف بڑا بزرگ، غوث اعظم اور خواجہ معین کا لقب
میکائیل ع رزق پہنچانے والا فرشتہ

ن

نابغہ	ع فصیح، خوش بیان، عرب کا ایک مشہور شاعر
ناجید	ع بہادر
نادر	ع حکم یاب، الوکھا نادر الاسلام
نادم	ع شرمذہ، پشمیان
ناز	ف فخر، پیار
نازاں	ف فخر کرنے والا
ناسخ	ع تکھنے والا، رد کرنیوالا
ناشط	ع خوشی کرنیوالا، رحمت کا فرشتہ
ناصر	ع مددگار، مدد دینے والا ناصر الاسلام، ناصر الملک ناصر الدوّلہ، ناصر الملت
ناصر الدین	ناصر الحق
ناصع	ع نصیحت کرنیوالا
ناصع الجیب	ع امین صادق
نااطق	ع بولنے والا مستکم
نااطق النیز	نااطق الحسن
نااطق الملک	نااطق الاسلام

ناظر	ع دیکھنے والا	ناطق الزمان، ناطق الدين
ناظم	ع پروفہ والا	ناظر الاسلام، ناظر الدين
نافع	ع ففع دینے والا	ناظر الملک، ناظر الملة
ناقد	ع پر کھنے والا	ناظر الحسن، ناظر الجبیب
نامی	ع نام ور، مشہور	ناظم الدين، ناظم الدولہ
ناہٰ	ع رسول اکرم ص ماقب، منع کرنیوالا	ناظم الملک، ناظم الاسلام
نائب	ع قائم مقام	عبدالنافع
نایاب	ع نادر، ناپید	نائب الاسلام، نائب الدين
نبی	ع پیغمبر خبر دینے والا	نایاب الدين، نایاب الزمان
نسیخ	ع بڑی شان والا	شار الحق، شار الحسن
نشر	ع پچھا در کرنا، صدقہ	نشر الاسلام، نشر الحسین
نجابت	ع اصالت، شرافت	نجابت علی
نجات	ع چھکارا، رہائی	نجات اللہ
نجم	ع ستارہ	نجم الدين، نجم الاسلام
		نجم العبدی، نجم الحق
		نجم الملک، نجم الزمان

نجیب ع بجلانس، سپاہی
 نجیب الحق، نجیب اللہ
 نجیب الرحمن، نجیب الاسلام
 نجیب الملائکہ، نجیب الزمان
 نجیب الحسن، نجیب اسلام
 نجیب الدین
 نجیب اللہ

نجید ع دلیر، شجاع
 ندرت ع الوکھاپن، نادر ہونا
 ندرت الحسن، ندرت الہی

ندیم ع مصاحب، هم نشین
 ندیم اللہ، ندیم الحق
 ندیم الحسن، ندیم الرحمن
 ندیم الدین، ندیم الاسلام
 ندر الحلق، ندر الحسن

نذر ع پیمان، رہمنت، تحفہ
 نذر الاسلام، نذر الدین
 نذیر اللہ، نذیر الحق

نذریر ع ڈرانے والا
 نذریر الاسلام، نذریر الہدی

نزارت ف نازک
 نسیم الاسلام، نسیم الحق

نسیم ع نرم رعنہ دی ہوا
 نسیم الحسن، نسیم الدولہ

نسیم النظر، نسیم العارفین
 نشاط الدین، نشاط الحسن

نشاط ع خوشی، سرت

نشاط الایمان، نشاط الاسلام

تشویر ع زندہ ہونا، قیامت میں ٹھنا

نصاخ ع ایک قاری کا نام

نصر ع مدد، حمایت

نصر اللہ، نصر الاسلام

نصر الحق، نصر من اللہ

نصر الملک، نصر الملة

نصر الحسن، نصر المبیب

نصرت الحق، نصرت اللہ

نصرت الاسلام، نصرت الحسن

نصرت ع، مدد، حمایت

نصوح ع نصیحت کرنے والا

نصیب ع حصہ، قسمت

نصیح ع نصیحت کرنے والا

نصیر ع نصیر الملک

نصیر الحق، نصیر الحسن

نصیر الدولہ، نصیر الرحمن

نظام الدین، نظام الحق

نظام اللہ، نظام الرحمن

نظام الحسن، نظام الملک

نظام الاسلام، نظام النظر

نظام ع اسٹرام، بنیاد

نظر

ع سخھو کی روشنی، تکرانی محمد نظر

نظریر ع مثل، مانند، مشابہ نظیر الدین، نظیر اللہ، نظیر الحق، نظیر الحسن

نظریر

نعمت اللہ، نعمت الحق	نعمت ع مال، روزی	نعمان ع امام ابوحنیفہ کا نام
نعمت الاسلام، نعمت الہی		
نعمیم اللہ، نعیم المشرقی	نعم ع بہشت، مال، نیکی	
نعمیم الحق، نعیم الاسلام		
نعمیم الدین، نعیم الرحمن		
نعمیم الودود، نعیم الرحیم		
نعمیم الحسن، نعیم الغنی		
نقیس الدین، نقیس الاسلام	نقیست ع لطافت، عمدگی	
نقیب الدین، نقیب الاسلام	نقیب ع خبرگرنے والا، سردار	
نقیب الدین، نقیب الاسلام	نقیب ع رئیس، امیر	
نواز ع غایت کرنے والا		
نوازش ع غایت، مہربانی		
نوح ع ایک سیفیر کا نام		
نور ع روشنی، چمک		
عبدالنور، نور العارفین		
نور الدین، نور الساجدین		
نور الحق، نور العابدین		

نوراللہ، نورالسائلین
 نورالعالم، نورالصباح
 نورالامام، نورالاسلام
 نورالکریم، نورالعین
 نورالہدی، نورالحسن
 نورالرحمیم، نورالجیب
 نورالرحمن، نوراللہی
 نورالعزیز، نوراللہی
 نورالانوار، نورعلی نور

نورس ف سازہ، نو خیز

نو شاد ف شادمان

محمد نوشاد

لوشیروال ف ایک عادل بادشاہ

لوفل ع سروار عرب

نوید ف خوشخبری

سہار ع دن، روز شمش النہار، آفتاب النہار

سہاں ف پورا، خوب صورت، خوشحال سہاں احمد

نیاز ف آرزو، منت نیاز الدین، نیاز الحق

نیتر ع روشن ستارہ

اردو کائینسوائی، فارسی کائینسوائی، عربی کا
چھبیسوائی حرف اس کے چھ بڑوں میں

و

والث	ع اٹل، مضبوط
واجد	ع پالنے والا
واحد	ع ایک
وارد	ع دلیر، بہادر
دارث	ع مستحق
واسع	ع کشادہ
واصف	ع تعریف کرنے والا
واصل	ع طنز والا
واعظ	ع نیحنت کرنے والا
واقف	ع آگاہ
والا	ف مالک، صاحب
والاجاہ	، والاشان
والاقدر	، والامریت
والازگاہ	، والاہمۃ
حضور والا	
عبدالوالی	ع حاکم، درست
وامق	ع عاشق جاہنے والا
وابہب	ع معاف کرنے والا، دینے والا

وجاہت ع	عزمت، خوبصورتی
وجیہہ ع	خوش رو، حسین
وجیہہ الحسن، وجیہہ الاسلام	وجیہہ الحق، وجیہہ الرحمن
وجیہہ الرحمن، وجیہہ الدین	وجیہہ اللہ
وحید الحق، وحید الدین	وحید
وحید الاسلام، وحید الزمان	ع اکبلا
وحید الحسن، وحید الرحمن	و دود
عبدالودود، و دود الحنی	ع دوست محبت کرنیوالا
و دود الفقور، و دود الحق	و دود
و دود الحسن، و دود اللہ	وزیر
وزیر الحق، وزیر الدین	ع کار فرا
وزیر اللہ، وزیر الحسن	و سیع
محمد و سیع	ع چورا، کشادہ
وسیم الدین، و سیم الحق	و سیم
وسیم اللہ، و سیم الرحمن	ع خوبصورت
وصاف ع	بہت تعریف کرنیوالا
وصی ع	وصیت کیا ہوا
وقار ع	بردباری، سکون
وقار الدین، و قار الاسلام	و قیع
وقار الحسن، و قار الملک	ع اونجا، بلند
و قیع	محمد و قیع
و کیع	ع سخت، ایک مشہور عالمگرد

وکیل ع نائب کارساز عبدالوکیل، وکیل الدین، وکیل الحق
وکیل الاسلام، وکیل نصر، وکیل الحسن
ولایت ع مددکرنا، مدد دینا ولایت الملک، ولایت الحق
ولایت اللہ، ولایت العابدین

ولی ع دوست، مالک، بقیل عبدالولی، ولی الدین
ولی اللہ، ولی الحق
ولی الحسن، ولی الاسلام
ولی الرحمن، ولی الملک

ولید ع بچہ، کم سن لڑکا
عبدالواہب ع بخشش والا

اردو کا چوتھیسوائی، فارسی کا آئیسوائی، عربی کا
ستائیسوائی حرف اس کے ۵ عدد ہیں

5

ہادی ع راستہ دکھانے والا عبد البادی
ہارون ع سردار، شریر گھوڑا ہارون الرشید
ہاشم ع آنحضرت ﷺ کے پرداد اکاذام محمد ہاشم
ہدایت ع سہیری بدایت الاسلام، بدایت الحسن
بدایت اللہ، بدایت من اللہ
ہمڈی ع راستی نور المبدی
ہلال ع تیسری تاریخیں کا چاند ہلال احمد

ہمایاں ع بلند، بہت بہادر، سردار
ہمایوں ف بابرکت
بہت ع حوصلہ، بہادری، بہت اللہ
ہنر ع کاری گری، کام، سلیقہ
بود ع ایک مشہور پیغمبر
ہمیت اللہ ع در، خوف، ہمیت اللہ

اردو کا ۳۵ واں، عربی کا ۱۰۰ واں، فارسی
کا ۳۲ واں حرف اس کے دس عدد مقرر ہیں



یار ف دوست، ساقی
یاسر ع ایک صحابی کا نام
یعنی ع آنحضرت کا لقب
یاقوت ع ایک قیمتی پتھر
یامن ع داہنا بازو
یاور ع مدکر شوالاناصر
یحیی ع ایک پیغمبر کا نام
یوسف المؤمن ع حضرت علیؑ کا لقب
یعقوب ع ایک پیغمبر کا نام
یقین ع اعتماد، کامل اطمینان یقین الدین، یقین الحق
یحکتا ف تنتہا، بے مثل، طاقت

یگانہ ف اکیلا، بے مثل، اپنا
 یکین الدین ع ایک معزز خطاب یکین الملک
 یوسف ع ایک یغمبہ کا نام محمد یوسف
 یولس ع رکن ستون، ایک مشہور پریغمبہ کا نام



فارسی اور اردو کا پہلا حرف ہے۔ حساب جمل
میں اس کا ایک عدد مقرر ہے

1

ابرار	ع نیک لوگ، اچھے لوگ ابرار النساء
اجمل	ع نہایت حییں اجمل النساء
احترام	ع عزت کرنا احترام النساء
احتشام	ع بزرگی، شوکت احتشام النساء
احسن	ع شبابش، آفرین احسن
احمد	ع تعریف کیا ہوا احمد النساء، احمدی
اخلاص	ع خلوص، دوستی اخلاص
اخلاق	ع ایجی عادتیں بخصلتیں اخلاق النساء
اختر	ف ستارہ، نصیبہ اختر النساء
ادا	ف ناز، نخرہ ادا
ادیبہ	ع علم جانے والی ادیبہ
آرا	ف حسین ارا
آرام	ف چین، سکون، سکھ آرام
ارجنند	ف قدر و قیمت والا ارجمند
آرزو	ف امید، خواہش آرزو
ارشاد	ع نیک پڑائیت دینا، حکم ارشاد النساء
ارشد	ع نہایت نیک، پڑائیت یافتہ ارشد النساء
ارمان	ف خواہش، تمنا ارمان

ارسیہ	ع ماهرو
از ہر	ع نہایت روشن، پچدار از ہر النساء
اسرار	ع بھید، راز اسرار
اسعد	ع نیک بخت، صالح اسعد النساء
اسلوب	ع طرز، طریقہ اسلوب
اسماں	ع نام
آسمیہ	ع جلیبہ
اشتیاق	ع شوق، آرزو
اشرف	ع بہت بزرگ
اشفاق	ع مہربانی، محبت
اصغر	ع بہت چھوٹا
اصف	ع حضرت سلیمانؑ کے وزیر کاتام آصف
اطہر	ع بہت پاک
اظہار	ع ظاہر کرنا، بیان دینا
اظہر	ع زیادہ روشن، تابناک
اعجاز	ع معجزہ، برامت دکھانا
آفاق	ع آسمان کے کنارے
افتتاب	ع سورج، دھوپ
افتخار	ع فخر کرنا
افروز	ف تابان
افریں	ف سجنان اللہ، شبابش آفریں

افسر	ف تاج، توپی	افسری
افشان	ف ابرک، بکھیرنا	افشان
افضل	ع بڑا، بزرگ	افضل النساء
اقبال	ع کامیابی، خوش نصیبی	اقبال النساء
اقتدار	ع قدرت، طاقت	اقتدار النساء
اقرار	ع مان لینا، تسليم کرنا	اقرار النساء
اگر	ع بہت بڑا	اگر النساء، اگری
اکرام	ع بخشش کرنا	اکرام النساء
اکرم	ع بہت بخشش والا	اکرم النساء
اکمل	ع بہت کامل	اکمل النساء
التفات	ع متوجہ ہوتا، مائل ہونا	التفات
الطاں	ع صہرا نیاں، عنایتیں	الطاں النساء
الفت	ع دوستی، محبت	الفت
الماس	ع ہیرا، قیمتی پتھر	الماس
ام السحر	ع مان (کنیت)	ام السحر
ام البنوم	ع بکشاں	ام البنوم
امته الحق	ع لوٹڈی، کنیز	امته الحق، امته السلام
امانت	ع سپرد کی ہوئی جیز	امانت
امتیاز	ع فرق کرنا، تمیز کرنا	امتیاز
امداد	ع مدد کرنا	امداد
امیر	ع سردار، حاکم	امیر النساء

ایمنہ	ع امانت دار
آمنہ	ع امن والی
انتخاب النساء	ع چنتا، پسند کرنا
انتظار	ع راہ دیکھنا
اجمیں	ع ستارے
اجمن آڑا	ع محفل، بزم
العام النساء	ع بخشش، العام
اجمیں	ف شہد
الوار النساء	ع روشنی، اجائے
النور	ع بہت روشن
انیس النساء انیسہ	ع محبت رکھنے والا
او صاف	ع تعریف، صفت
ایشار	ع ترجیح دینا

عربی، فارسی اور اردکا دوسرا حرف، حساب

جمل میں اس کے ۲ عدد مقرر ہیں

ب

باد	ف ہوا
بانو	ف بیگم، بیوی، خاتون
بتول	ع کنواری، فاطمہ زہرا کا لقب بتول الزماں
بخت	ع قسمت، اقبال

بختاور	ا صاحبِ نصیب، اقبال مند بختاور
بدر	ع چودھویں کا چاند بدر النساء
برحیس	ع ستارہ، مشتری برجیس
برکت	ع زیادتی، فضل برکت
بسم اللہ	ع اللہ کے نام سے بسم اللہ
بشرارت	ع خوشخبری، الہام بشارت النساء
بلشیر	ع خوشخبری دینے والا بشیر النساء بشیرہ
بصیرت	ع بینائی بصیرت النساء
بلقیس	ع عک شام کے شہر سبکی ملکہ بلقیس
بوا	ع بہن، آپا، بھیڑہ
بہار	ف بھول کھلنے کا موسم بہار
بنی بنی	ا بیکم، ملکہ بنی بنی
بیکم	ت شریف بیوی، خاتون

اردو و فارسی کا تیسرا، بندی کا ایک سوانح رف،
حساب جمل میں اس کے ۲ عدد مقرر ہیں



پارس ف ایک قسم کا پتھر پارس
پروین ف شریا، چند ستاروں کا نام پروین

اردو، فارسی کا جو تھا، عربی کا تیسرا حرف
ہے۔ ابجد میں اس کے ۰۳ عدد ہیں

ت

تاباں	ف	چمک طر
تابش	ف	گرمی، چمک
تابندہ	ف	چکنے والا
تابشیر	ع	نتیجہ، اثر
تاج دار، تاج ور	ع	بادشاہی ٹپی
تارا	ا	ستارہ
تبارک	ع	برکت وللا
تبسم	ع	مسکراہٹ
تکسین	ع	شاباش
ترانہ	ف	گیت، راگ و نقر
ترجم	ع	گنگانا
ترزین	ع	زینت دینا، آراستہ کرنا ترزین النساء
تسیبیح	ع	خدا کی پاک بیان کرنا
تسکین	ع	اطینان، تسلیم
تسیلیم	ع	ماننا، سونپنا
تسینم	ع	بہشت کی ایک نہر
تصدق	ع	قربانی، صدقہ ہوتا تصدق
ترزین	ع	آراستہ ہونا، مزین ہونا ترزین النساء

تصور	ع خیال، وصیان
تغطیم	ع عزت، بزرگی
تعظیم	ع پاکیزگی
تقدیس	ع پرہیزگار، پاک صاف
تحقی	ع پرہیزگار، پاک صاف
تکریم	ع بزرگی، تقدیر
تمکن	ع اختمام
تمکنت	ع قدرت، ودبه
تمکنا	ع خواهش، ارزو
تمیز	ع شناخت، شعور
تمیز النساء	ع روش کرنا
تنویر النساء	ع نداشت
تو به النصوح	ع صفت، بیان کرنا
توصیف	ع صفت، بیان کرنا
توفیق	ع موافق کرنا، خیال
توفیق النساء	ع توفیق المیز
تبذیب	ع آراستگی، شائستگی
تبذیب النساء	ع تبذیب النساء
تهنیت	ع مبارک باد
تهنیت	ع عزت کا خیال
توقیر	ع توقیر النساء

اردو کا چھٹا، عربی کا چوتھا اور فارسی کا پانچواں
حروف، اس کے ۵۰۰ عدد ہیں

ث

شروع	ع مال کی زیادتی، دولت	ثروت
ثیریا	ع پر وین	ثیریا
پندر	ع پھل، نتیجہ	پندر
پنمن	ع قیمت، قدر	پنمن
پنکین	ع قیمتی، بیش بیہا	پنکین

اردو کا ساتواں، عربی کا پانچواں، فارسی کا
چھٹا حرف۔ ابجد میں اس کے ۳ عدد ہیں

ح

جاسرہ	ع شجاع، بہادر	جاسرہ
جان	ف طاقت، زندگی	جان
جبیں	ف پیشانی	جبیں
جسمیم	ع موٹا، فربہ	جسمیم
جلالت	ع بزرگی، عالی، رتبہ ہونا	جلالت
جلیس	ع ہم نشیں	جلیس
جلیل	ع بزرگ، معزز	جلیل
جمال	ع حسن، خوب صورتی	جمال
جمیل	ع حسین، خوب صورت	جمیل

جوہر	ع قیمی پھر بعل
جوہی	ع چنیلی
جهان	ف دنیا
جهان آرا، جہاں آفریں (اعویٰ)	جہاں کے آخر میں آتا ہے

اردو کاغذ، فارسی کا آٹھواں، عربی کا
چھتاخarf۔ ابجدیں اس کے آٹھ عدد مقرر ہیں

ح

حافظ	ع نگہبان، پاسبان	حافظ النساء حافظه
حامدہ	ع تعریف کرنے والی	حامدہ
حاویہ	ع احاطہ کرنے والی، ماہر	حاویہ
جبیہ	ع دوست، مونس	جبیہ النساء
حجتہ	ع بحث، ادلیل	حجتۃ الابرار، حجتۃ البالغ
حدائقہ	ع باغ	حدائقہ النساء
حرمت	ع عزت، ابرد	حرمت النساء
حریم	ع گھر کے چاروں طرف کی دیوار	حریم
حسن	ع خوب صورتی	حسن آرا، حسنی (حسن کا مؤنث)
حسین	ع خوب صورت	حسینہ
حسنات	ع بخلایاں	حسنات
حسین	ع شکیل، خوبصورت	حسینہ
حشمت	ع دیدہ، بزرگی	حشمت النساء

حفصہ	ع	حضور کی ایک زوجہ کا نام	حفصہ
حضرت	ع	نگہبان	حضرت
حقیقت	ع	سچائی	حقیقت
حکمت	ع	عقلمندی، دانائی	حکمت النساء، حکیمہ
حلاوت	ع	مشھاس	حلاوت النساء
حليمہ	ع	بردار	حليمہ
حمایت	ع	طرف داری، مدد	حمایت
حمدید	ع	سن اوار اتریف	حمدید
حمراء	ع	حسین	حسین
حنا	ع	مہندی لکپتی	حنا
حنیف	ع	دین کا سپا	حنیف
خوا	ع	حضرت آدمؑ کی بیوی	خوا
خور	ع	خوب صورت، شکلید	خور النساء، خور العین
حیات	ع	زندگی، عمر	حیات النساء
حیرت	ع	تعجب، اچھما	حیرت النساء

اردو کا دسویں، عربی کا ساتواں اور فارسی
کا نواں حرف ہے اس کے ۶۰۰ عدد ہیں۔

ح

خاتون	ت	بیگم، بی بی، ملکہ
خادم	ع	خدمتگار
خالد	ع	ہمیشہ رہنے والا

خانم	ف	امیرزادی، بیوی
حجستہ	ف	مبارک ہمایوں نجمتہ
خدیجہ	ع	انحرفت کی پلی بیوی کاتھم خدیجہ
خطابہ	ع	بہت تقریر کرنے والی خطابہ
خطیب النصار	ع	واعظ کرنے والا
خلفۃ النساء	ع	جانشین
خلفۃ النساء	ع	ملنسار، مہربان
خورشید	ف	آفتاب، سورج
خوش اختر، خوش اندام	ف	شاداب، راضی
خوش بخت، خوش حال		
خوش گوار، خوش نما		
خوش نصیب		
خوشنودی	ف	رضاندی، خوشی
خیر	ع	نیکی، بھلانی، مال
خیط الابیض	ع	صحیح کی روشنی

اردو کا گیارہواں، عربی کا آٹھواں، فارسی کا
دواں، ہندی کا اٹھارہواں حرف ابجد میں اسکے بعد میں

د

دانش	ف	عقل، شعور
درخشاں	ف	روشن، چک دار

دردانہ	ف	نام ہے
درشہوار	ف	پادشاہوں کے قابل بڑا موئی
دلاور	ف	شجاع، بہادر
دل آرام	ف	معشوق، پیارا
دلبر	ف	دلربا، معشوق
دلربا	ف	معشوق، دلبر
دلشاد	ف	خوش و خرم، مکنی
دل فریب	ف	فریفته کرنے والا
دل کش	ف	دچکپ، خوش تما
دل کشا	ف	فرانخ، وسیع
دلدار	ف	دلبر
دل افروز	ف	دل فریب
دل نواز	ف	من پسند
دولت النساء	ع	دُوَّارِ الشَّمْسِ ع سورج مکھی
دیبا	ف	بایک ریشمی کپڑا

عربی کا نواں، فارسی کا گیارہواں۔ اردو کا
تیرہواں حرف ہے۔ اس کے اعداد ۱۰۰، ہیں

ذ

ذکر ع ذکر کرنے والا ذاکرہ

ذکار	ع ذہانت، فراست
ذکیہ	ع تیز، فہم، ذہین
ذیشان	ف شوکت والا

عربی کا دسوائی، فارسی کا بارہواں، اردو کا چودھواں
ہندی کا ستائیسواں حرف، اس کے ۲۰۰ عدد ہیں

رابط	ع ربط پیدا کرنے والا
رابعہ	ع ایک پارسا عورت کا نام
راجع	ع والپس ہونے والا
راحت النساء	ع آرام
راجحہ	ع مہربان
راحل	ع کوچ اور سفر کرنے والا
راشدہ	ع ہدایت یافتہ
راعیہ	ع بہت الفت کرنے والی
رافعہ	ع بلند کرنے والا
ربیع	ع بہار
رحمت النساء	ع مہربانی بخشش
رحمیم النساء، رحیمه	ع مہربان
رخانہ	ف نام ہے
رختاں	ف چکتا ہوا، روشن

رخشنده	ف چکتا ہوا، روشن
رشید	ع پدایت یافت
رضا	ع خوشنودی، مرضی رضا
رضوان	ع رضامندی، بہشت کا دربان رضوانہ
راقم	ع تکھنے والا
رامش	ف آسائش، خوشی، تفصیلت
ربانی	ع خذار سیدہ بزرگ
ربیط	ع حکیم، درولیش، جوڑنیوالا ربیط الباش
رضیہ	ع پسندیدہ
رضا	ع خوشنازیبا
رفعت النساء	ع برتری، بلندی
رفع النساء، رفع	ع بلند مرتبہ، شریف
رفیق النساء	ع ہمراهی، دوست
رقیب	ع نگہبان، ہمسر
رقیہ	ع آنحضرت کی صاحبزادی کا نام
رمثا	ع خوبصورت
رمیزہ	ع ایک نام
روشن	ف چک دار، تابناک
رونق	ف چک دک، تازگی
روحی	ع میری جان
رئیس النساء، رئیسہ	ع سردار

روودہ	ع	جوان، حسین عورت
ریشم	ف	ریشم کی طرح
ریحانہ	ف	ایک خوبصورت پوڈا

اردو کا سولہواں، عربی کا گیارہواں، فارسی کا
تیرہواں حرف ہے۔ اس کے اعداد ابجد میں، ہمیں

ن

زائدہ	غ	پیر سترنگار
زائرہ	ع	زیارت کرنے والا
زبیدہ	ع	خلیفہ ہارون رشید کی بیوی
زرسین	ف	سنہر، سوئیکے کام والا
زعیم	ع	کفیل، حاضر
زکیہ	ع	پاک، صاف
زلف	ع	کاکل، بالوں کی لٹ
زینخا	ع	عینہ، مصر کی بیوی کا نام، مجاز اخوبصورت عورت
زمرد	ف	سبز رنگ کا قیمتی پتھر
زہرا	ع	کلی، سگوف
زہرہ	ع	ایک ستارہ
زیب	ف	زینت، منگھار، بناؤ
زیبا	ف	بجلاء، خوشنا
زیتون	ع	ایک مشہور درخت
زینت	ع	نام ہے

ترینت ع آرستگی زینت

عربی کا بارہواں، فارسی کا پندرہواں، اردو کا
اٹھارہواں حرف، عدد ۶۰ ہیں

س

ساجد	ع سجدہ کرنے والا	ساجد	ع سجدہ کرنے والا
ساحرہ	ع سحر کرنے والا	ساحرہ	ع سحر کرنے والا
سارا	ع نام ہے	سارا	ع نام ہے
سالکہ	ع پابند شرع بزرگ	سالک	ع پابند شرع بزرگ
سامہ	ع محفوظ، پورا	سامم	ع محفوظ، پورا
سائزہ	ع سیر کرنے والا	سائزہ	ع سیر کرنے والا
ستارہ	ف نجم، اختر	ستارہ	ف نجم، اختر
صحابہ	ع بادل ابر	صحابہ	ع بادل ابر
سراج النساء	ع چراغ	سراج	ع چراغ
ستراج	ف سردار	ستراج	ف سردار
سرفراز	ف سربند	سرفراز	ف سربند
سرمدی	ع دائم	سرمد	ع دائم
سروری	ف خوشی، هست	سرور	ف خوشی، هست
سطوت النساء	ع دبده، رعب	سطوت	ع دبده، رعب
سعادت النساء	ع نیک بختی، ہنگی	سعادت	ع نیک بختی، ہنگی
سعدیہ	ع نیک، مبارک	سعد	ع نیک، مبارک
سعید النساء، سعیدہ	ع نیک بخت امبارک	سعید	ع نیک بخت امبارک
سروری	ع سردار، مالک	سرور	ع سردار، مالک

سکینہ	ع حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام، آرام کی چیز
سلامت	ع تند رستی، پیغام برداری، سلامت الغیر، سلامت النصار
سلطانہ	ع ملکہ
نسلمہ	ع شوراء عرب کی مشہور مشعوقہ کا نام
سلیم	ع تند رست، نیک سلیم النساء
سلیقه	ع تمیز، شعور
سمن	ف چبیل
سمیع	ع سنے والا
سببل	ع ایک خوبصورت گھاٹ
سبحیدہ	ف متین، تجربہ کار
سید	ع بزرگ، سردار سیدہ
سیما	ع نشان، علامت
سیمین	ف چک دار، سفید

عربی کا تیرہواں، فارسی کا سو ہواں، اردو کا
انیسو ہواں حرف، ابجد میں ۳۰ عدد ہیں

ش

شاد ف خوش، بلغم
شاداب ف تروتازہ
شاداں ف خوشیے حال
شادماں ف خوش حال

شارق النساء	ع	چکنے والا، آفتاب	شارق ع
شاعر	ع	جانبے والا، شعرگو	شاعر ع
شاغل	ع	معلوم ہونے والا	شاغل ع
شافع	ع	شخارش کرنے والا	شافع ع
شاکرہ	ع	شکرگزار، قانع	شاکرہ ع
شادہ	ع	حاضرگواہ	شادہ ع
شاہ جہاں، شاہ رخ	ف	باشدہ	شاہ ف
شاہدار، شاہ ناز			
شاہ نواز			
شاہین، شاہینہ	ف	شاہ باز	شاہین ف
شاپاں	ف	لاتق، موزوں	شاپاں ف
شائستہ	ف	لاتق، تعلیم یافتہ	شائستہ ف
شبانہ	ف	نام ہے	شبانہ ف
شبینم	ف	اوس	شبینم ف
شبیہ	ع	مشابہت، مانند	شبیہ ع
شرافت	ع	برگی	شرافت ع
شرف النساء	ع	بلندی، برتری	شرف ع
شرف النساء، شرفیہ	ع	بزرگ، عالی خاندان	شرف ع
شفاء	ع	صحت	شفاء ع
شفاعت	ع	بنشوانا	شفاعت ع
شفقت النساء	ع	محبت، اخلاص	شفقت ع

شہیرہ	ع	نام و مشہور	شہیرہ	شہیرہ
شہوار	ف	بادشاہ کے لائق عمدہ چیز	شہناز	شہناز
شہلہ	ع	نہایت سیاہ آنکھوں کی عورت	شہزادی	شہزادی
شہزادی	ف	راج کماری	شہرست	شہرست
شہر بالو	ع	بادشاہ یزد گرد کی بیٹی جو ایمان فتح ہونیکے بعد حمرت امام حسینؑ کے نکاح میں آئیں	شہر بافو	شہر بافو
شوکت النساء	ع	دبده، تیزی	شوگر	شوگر
شمیم	ع	خوشبو، مہک	شممع	شممع
شمشداد	ف	ایک خوبصورت درخت	شمشداد	شمشداد
شمسم	ع	کنگمی	شمسم	شمسم
شممس	ع	آفتاب	شمس النساء	شمس النساء
شکلیہ	ع	کھلا ہوا	شکفتہ	شکفتہ
شفیق النساء، شفیقہ	ع	وضع دار، خوبصورت	شکلیہ	شفیق

شیراز ف ایک شہر کا نام
شیریں ف یقیناً، پیارا، نرم

اردو کا بیسوائیں، فارسی کا ستر ہواں، عربی کا
چودھواں حرف اس کے ۹۰ عدد مقرر ہیں۔

ص

صابرہ	ع	صبر کرنے والا	صابر	ع
صاحبہ	ع	سہیلی، عورت	صاحبہ	ع
صادقة	ع	سچا، منصف	صادق	ع
صالحہ	ع	نیک عورت	صالحہ	ع
صادم	ع	روزہ رکھنے والا	صادم	ع
صبا	ع	پُر وَا، ایک نغمہ	صبا	ع
صبح	ع	بہت حسین، تقدیل کا شعلہ	صبح	ع
صباحت	ع	خوب صورتی	صباحت	ع
صبور	ع	صابر	صبور	ع
صیحہ	ع	گورا، خوبصورت	صیحہ	ع
صداقت	ع	سچائی، خلوص	صداقت	ع
صدر	ع	ہر جیز کا شروع، اسینہ	صدر	ع
صف	ع	سیپیں	صف	ع
صدقیہ	ع	نہایت سچا	صدقیق	ع

صدیقہ	ع دوست
صغریہ	ع چھوٹا کم عمر
صفات	ع تعریف، علماتین
صفدری	ع فوج کی صنوف کو پھاڑنے والا
صفورا	ع حضرت مولیٰ کی یوں
صفیہ	ع پاک دامن عورت
صنوبر	ع چیڑ کا درخت
صوفیہ	ع متقیٰ پرہنگار
صلوت	ع رعب، دید و بہ
صہبہ	ع انگور کی سرخ شراب

ض

ضمیر	ع خیال، بھیہ، دل
ضیاء، ضیاء اللہ	ع روشنی

ط

اردو کا ۲۲ واں، فارسی کا ۱۹ واں، عربی کا ۱۶ واں
حرف اس کے ف عدد مقرر ہیں

طالبہ طالیہ ع. طلب کرنے والی

طالعہ	ع نصیب والی
طاهرہ ، طاہر النساء	ع پاک، صاف
طاوس	ع مور
طیب	ع حکیم، داکٹر
طلعت ، ماہ طلعت	ع دیدار
طوبی	ع خوشبودار، پاکیزہ تر
ظهور	ع پاک
طیبہ	ع پاک، لذیذ

اردو کا ٹیسوان، فارسی کا ٹیسوان، عربی کا سترہوان
حروف، اس کے ۹۰۰ عدد مقرر ہیں

ظ

ظاہرہ	ع کھلاہوا
ظریفہ	ع خوش طبع
ظفر	ع کامیابی، جیت
ظهور	ع ظاہر ہونا
ظہیرہ	ع مددگار، حمایتی

اردو کا چوبیسوائیں، فارسی کا اکیسوائیں، عربی کا
اٹھارہوان حروف، اس کے، عدد مقرر ہیں

ع

عبد ع عبادت کرنے والی عابدہ

عابرہ	ع غور کرنے والا
عاتقہ	ع نوچنے والا
عاجزہ	ع مجبور، ناچار
عادل	ع منصف، پرستیگار
عارف	ع خدا رسیدہ
عازم	ع قصد کرنے والا
عاصم	ع نگہبان
عاطر	ع خوشبودار
عقل	ع دانا، عقلمند
عالم	ع دنیا، جہاں
عالیٰ	ع جانتے والا
عامر	ع بلند، برتر
عامل	ع آباد کرنے والا
عائشہ	ع عمل کرنے والا
عبادت	ع آرام پانے والا
غثیق النساء	ع بندگی
عجبیں النساء، عجیبہ	ع پرانا، بزرگ
عذرًا	ع اونکھا، تراہ
عرشی	ع کنواری
	ع تخت، آسمان

عرفان	ع پہچانتا، معرفت
عروج	ع بلندی، ترقی
عزت	ع بزرگی، انتیاز
عزیزہ، عزیز النساء	ع کمیاب، نادر
عسکری، عسکر النساء	ع قوچ، لشکر
عشرت	ع آرام، خوشی
عصمت	ع پارسائی
عطاء	ع بخشش
عطیہ	ع انعام، بخشش
عظیمت	ع قدر، بڑائی
عظیم	ع بزرگ، بہتر
عفت	ع پیریزیگاری
عفیفہ	ع پارسا، پیریزیگار
عقیق	ع ایک سرخ قیمتی پتھر
عقیق النساء	ع دانا، سمجھہ دار
عقلیدہ	ع جانتے والا
علیم	ع زندگی، من
علم النساء	ع توجہ، مہربانی
عمر النساء	ع ایک خوشبو دار موم
عنایت	ع ببلیل، گل دم
عنبر	ع سرفی، دیباچہ
عندلیب	
عنوان	

ع عین کاچشہ، آنکھ عین الحیات، عین الصبا

ع

اردو کا پکیسوائی، فارسی کا بائیسوائی، عربی کا
انیسوائی حرف اس کے ایک ہزار عدد مقرر ہیں

غزال	ع ہرن	غزال
غزل	ع محبوب سے گفتگو کرنا	غزل
غفور	ع معاف کرنے والا	غفور النساء
غوث	ع فریادرس	غوث النساء
غیرت	ع شرم، عار	غیرت النساء
غیور	ع شرمیلا، غیرت دار	غیور النساء

اردو کا چھیسوں، فارسی کا تیسروں، عربی کا
بیسواں حرف۔ اس کے ۸۰ عدد مقرر ہیں

ف

فاتحہ	ع	ناتھ کی تائیث	فاتحہ
فاخر	ع	خُرگرنے والا، معزز	فاخرہ
فاروق	ع	حق و باطل میں فرق کرنے والا	فاروق النساء
فاضلہ	ع	بزرگ عورت، بخشش	فاضلہ
فاکہہ	ع	میوه، پھل	
فاطمہ	ع	دودھ جھڑانے والا	فاطمہ
فاعل	ع	کسی کام کا کرتے والا	فاعل
فائق	ع	بہتر، برگزیدہ	فائق
فتاح	ع	کھولنے والا	فتاح
فتح	ع	کامیابی	فتح
فخر	ع	بزرگی، ناز	فخر
فدا	ع	صدقة، سرپیا	فدا
فراست	ع	دانائی، تیز فہمی	فراست
فرحان	ف	مسرور، خوش	فرحان
فرح	ع	خوشی، سرور	فرح
فرحت	ع	خوش خرمی، نشاط	فرحت
فرخ	ف	خوب صورت، مبارک	فرخ

قرخنده	ف نیک، رخ زیبا	فرخنده
فردوس	ع جنت، بہشت	فردوس، فردوسی
فرزانه	ف ہوشیار، عقائد	فرزانه
فرید	ع تنہا، بنے نظر	فریدہ
فصاحت	ع خوش کلامی، خوش بیانی	فصاحت النساء
فصیح	ع خوش گفتار	فصیح النساء
فضائل	ع بخششیں	فضائل النساء
فضل	ع بخشش، بزرگی	فضل النساء
فضیلت	ع برتری، بلندی	فضیلت النساء
فطرت	ع دانائی، پیدائش	فطرت
فلک	ع آسمان، قسمت	فلک آراء،
فوز	ع کامیاب ہونا	فوزیہ
فوق	ع سبقت، فضیلت	فوقیہ
فهمیم	ع داند، عاقل	فهمیم النساء
فهمیدہ	ق عقیل، سمجھدار	فهمیدہ
فیروزہ	دمر، ایک عدہ قسم کا پتھر	فیروزہ
فیض	ع بخشش، کرم	فیض النساء



ف

اردو کاستائیسوال، فارسی کا جو بیسوال، عربی
کا الیسوال حرف۔ اس کے ایک سو عدد مقرر ہیں

قادر	ع	قدرت والا
قائل	ع	کہنے والا
قبول	ع	مانتا، باہد صبا
قدر	ع	اندازہ، حکم
قدسی	ع	نیک بندہ
قدوسی	ع	بڑا پاک
قدریر	ع	طاقت ور
قرۃ	ع	آنکھ، ٹھنڈک
قریش	ع	عرب کا مشہور قبیلہ
قرینہ	ع	طرز، سلیقہ
قطب	ع	ولی، سردار
قمر	ع	چاند، چاندنی
قیصر	ع	شہنشاہ

ک

اردو کا اٹھائیسوں، فارسی کا پہیسوں، عربی کا
بائیسوں حرف۔ اس کے ۲۰ عدد ہیں

کاشف	ع تابہر کرنے والا
کاظم	ع غصہ ضبط کرنے والا
کامل	ع پورا، ماهر
کبیر	ع بڑا
کرامت	ع انوکھی، چیز
کریم	ع سخنی، فیاض
کشف	ع کھلنا
کشور	ع دلایت، اقلیم
کلثوم	ع نام ہے
کلیم	ع بات کرنے والا
کثیر	ع کنواری، لونڈی
کوثر	ع بہشت کی ایک ندی کوثر النساء، کوثر الحیر
کوکب	ع روشن ستارہ
کھکشان	ع ستاروں کا شہر
کیف	ع سرور
السو، کیفی	

اردو کا ایسواں، فارسی کا چھبیسوں حرف،
ابجد میں اسکے ۲۰ عدد مقرر ہیں۔



گل اندام، گل افشاں	ف پھول	گل
گلاب	ف ایک خوبصوردار پھول	گلاب
گل ابر	ف بادل کا ٹکڑا	گل ابر
گل آفتاب	ف سورج مکھی	گل آفتاب
گل بدن	ف معشوق، نازک	گل بدن
گل چہرہ	ف دل کشن	گل چہرہ
گلچین	ف مالی، باغبان	گلچین
گل رخ	ف گلاب جیسے چہرہ والا	گل رخ، گل رو
گل رخان	گل رو	گل رخان

گل رعناء ف پھلو جو اندر سے سرخ باہر گل رعناء

سے زرد ہو

گل ریز	ف پھلبھڑی	گل سیز
گلزار	ف باغ	گلزار
گلستان	ف سپلواری	گلستان
گلشن	ف باغ	گلشن

گل صنوبر	ف پھول
گلعنزار	ف گلاب چیسے گالوں والا
گل فام	ف گل رنگ
گل مہتاب	ف سفید پھول
گلنار	ف انار کی ایک قسم
گل نشاط	ف کنایتہ شراب
گوہر	ف موئی، ذات



اردو کا تیسواں، فارسی کا تیسواں، عربی
کا تیسواں حرف۔ اس کے بعد ہی ۳۰

لائق	ع	قابل، جائز	لائق النساء
لبني	ع	دودھ دینے والی	
لطفات	ع	نرم، خوبی	لطافت النصار
لطف	ع	لذت، عذرگی	لطف النساء، لطف السحر
لطیف	ع	باریک بیں	لطیف النساء، لطیف
لقا	ع	شکل، دیدار	مہ لقا
لیاقت	ع	خوبی، قابلیت	لیاقت النساء، لیاقت فاطمہ
لیل	ع	رات	لیلة البدر، لیلۃ القدر
لیلی	ع	مبئوں کی محتشوہ کاتام	لیلی
لیق	ع	لائق، قابل	لیق النساء

اردو کا آئیسوائی، ہندو کا پچیسوائی، فارسی کا
اٹھائیسوائی، عربی کا چوبیسوائی حرف۔ اس کے عدد ۳۰ ہیں

م

ماجد	ع	بزرگ، قابلِ احترام	ماجده
مالکہ	ع	مالکن	مالکہ
ماہرہ	ع	واقف کار	ماہرہ
ماہرو	ف	چاند کے ماتنہ چہرے والا	ماہرو
ماہِ جم	ف	عجم کا چاند	ماہِ جم
ماہِ عرب	ف	عرب کا چاند	ماہِ عرب
ماہِ کامل	ف	مکمل چاند	ماہِ کامل
ماہِ مبین	ف	ظاہر چاند	ماہِ مبین
ماہِ منیر	ف	روشن چاند	ماہِ منیر
مبارک	ع	مرشدہ	مبارک
مبشر	ع	خوشخبری دینے والا	مبشر
منصر	ع	پر کھنے والا	منصر
مبلغ	ع	پہنچانے والا، واعظ	مبلغ
مبینہ	ع	ظاہر، روشن	مبینہ
متانت	ع	مضبوط پختگی	متانت
متاع	ع	اثاثہ، پونجی	متاع
متین	ع	مضبوط	متین
متانت النصار			
متاع النصار			
متین النساء			

مجیب	ع قبول کرنے والا
مجید	ع بزرگ
محبوبہ	ع دوست، معشوقہ
محبوب	ع پوشیدہ، شرمدہ
محسنہ	ع مددگار
محمدی	ع تعریف کیا ہوا
محمود	ع پسندیدہ
مختار	ع پسندیدہ، آزاد
مخدوم	ع آقا، مالک
مدحت	ع تعریف
مرجان	ع چھوٹا موتی
مرضی	ع مرغوب، پسندیدہ
مرغوب	ع پسندیدہ
مرکیم	ع کنواری، پارسا
مسرت	ع خوشی، شادمانی
مسرور	ع خوش
مسعود	ع نیک، بختا در
مسئلہ	ع دین اسلام کی پیرود
مشابہ	ع معاشر کرنا
مشتاق	ع آرزو، خواہ
مشتری	ع ستارہ

مشیر	ع شرف یافته
مشفق	ع مهربان، دوست
مشفق النساء	ع مهربان، دوست
مشکور	ع معمون، پسندیده
مشکور النساء	ع معمون، پسندیده
مشہود	ع حاضر، موجود
مشہودہ	ع حاضر، موجود
مشیت	ع مرضی، قسمت
مشیر	ع صلاح کار
مشیر النساء	ع صلاح کار
مصدق	ع یقین کرنے والا
مصدقہ	ع یقین کرنے والا
مصلحت ایزدی	ع خوبی، اچھا شورہ
مطرب	ع خوش کرنے والا
مطربہ	ع خوش کرنے والا
مطلوب	ع مانگا ہوا، محبوب
مطلوب النساء	ع مانگا ہوا، محبوب
مطیب	ع خوشبو دینے والا
مطیع	ع خدمت گار
منظفر	ع کامیاب، فتح مند
منظفر النساء	ع کامیاب، فتح مند
منظہر	ع ظاہر ہونے کی جگہ، گواہ منظر النساء، منظر جانان
معجزہ	ع جوبات خلاف عادت ظاہر ہو معجزہ
معراج	ع سیر صحی
معرفت	ع خداشناسی
معروف	ع مشہور، ظاہر
معزہ	ع باوقعت
معشوقہ	ع محبوبہ
محصوم	ع پاک دامن

معظمه	ع شریف، بزرگ
معینہ	ع مدگار
مفہیمہ	ع گانے والی
معیشہ	ع فریادرس
مفضل	ع بہت احسان کرنیوالا مفضلہ
مقبول	ع محبوب، پسندیدہ مقبول
مقدسہ	ع پاک
مقدمہ	ع آگے آگے رہنے والی مقدمہ
مقدارہ	ع مقرر کی ہوئی مقدارہ
مقصودہ	ع مطلب، غرض
مکرمہ	ع بزرگ
ملکہ	ع بادشاہ کی بیوی
ممتاز	ع نام و ر، شریف
مشتہی	ع انتہا کو پہنچنے والا
منشاء	ع ارادہ، سبب
منصفہ	ع عادل
منصورہ	ع مدد کیا ہوا
منظور	ع پسندیدہ
منفعت	ع فائدہ، نفع
منقبت	ع بزرگی، تعریف کرنا
منور	ع نورانی، روشن
منظور النساء، منظور العین	منظور النساء

منیب	ع حق کی طرف پھرنے والا	شیب
منیر	ع چمکیلا، روشن	منیر النساء، منیره
مولفہ	ع جمع کرنے والی	مؤلفہ
مومنہ	ع ایمان لانے والی	مومنہ
مرہ	ف چاند، مہینہ	مرہ پارہ، مجیس
		مرخ، مردو
		مرؤش، مرقا
مہتاب	ف چاندنی، چاند	مہتاب
مہدیہ	ع ہدایت کیا ہوا	مہدیہ
مہر	ف پیار، دوستی	مہر النساء
مہین	ع نازک، پتلہ	مہین
میمنت	ع برکت، کامیابی	میمنت
میمونہ	ف سبارک، کامیاب	میمونہ

اردو کا پیسوادہ، عربی کا پیسوادہ، فارسی کا
اتیسوادہ حرفت۔ ابجدیت اسے کے ۵۰ عدد ہی رہے

ن

ناجده	ع بند والی
ناجیہ	ع نجات پانے والی
نادرہ	ع کمپیاب، انوکھی
ناز	ف فخر، پیا ناز، نازش
نازپری	ف بہرام گور کی ملکہ کا نام جو شاہ خوارزم کی بیٹی تھی
نازنین	ع دل آویز، نازک
ناصرہ	ع مددگار
ناصیہ	ع پیشانی کے بال، ماتھا
ناطقہ	ع گویائی کی طاقت
ناظرہ	ع دیکھنے والی
نااظمہ	ع پروٹے والی
نااظورہ	ع محبوہ، معشوقہ
ناعمر	ع نازک، نرم

نایید	ع نزہہ ستارہ
نایاب	ع نادر، نایید
بجم	ع ستارہ
بکیر	ع بھلامائس، سیاہی بحیب النساء
ندرت	ع انوکھا پن ندرت
ندیر	ع ڈرانے والا نذریں النساء
نرگس	ع آنکھ کے ماند ایک بھول نرگس
نزارت	ع نازکی نزاکت
نزہت	ع خوش حالی، بھلائی نزہت آرا
نسترن	ف سفید گلب، بل سبو نسترن
نسرين	ع نسترن، بل سیوتی
نسیم، نسیمه	ع نرم، ٹھنڈی ہوا نشاط
نشاط	ع خوشی نشاط
نصرت	ع مدد، حمایت، فتح
نصیب	ع حصہ قسمت
نصیح	ع نصیحت کرنے والا
نظر	ع آنکھ آنکھ ک روشنی
نظیر	ع مثل، ماند
نعمت	ع مال، روزی نعمت

نعم	ع بہشت، مال
نفہ	ع راگ، اچھی آواز
نگولہ	ف جوڑا، زلف
نفاست	ع لطافت، عمدگی
نقیس	ع پسندیدہ، لطیف
نقیہ	ع پاک، خالص
نقیبہ	ع خبر کرنے والی
نکتہ	ع مہک، خوشبو
نگار	ف معشوق، نقش
نگاہ	ف آنکھ، بصارت
نگینہ	ف ایک قیمتی پتھر
نواز	ف آواز، راگ
نوازش	ف عنایت، مہربانی
نور	ع روشنی، چمک
نور العین ، نور الصباح	
نور النہار ، نور بانو	
نورس	ف تازہ، نو خیز
نوشاپہ	ف آپ جیات، سکندر کی بیوی
	نوشاپہ

نہان	ف	پورا، خوبصورت	نہان
نیاز	ف	آرزو، عاجزی	نیاز
نیتر	ع	روشن، ستاره	نیتر
نیک	ع	سعید، خوب	نیک اختر، نیک بخت
نیلم	ف	آسمانی رنگ کا ایک قیمتی پتھر	نیلم
نیلوفر	ف	کوکا بیلی، کنول	نیلوفر

اردو کا تینیسوالی، عربی کا ۲۶ واہر، فارسی کا
۳۰ واہر حرف اسے کے عدد مقرر ہیے

و

واجد	ع پانے والا
واصف	ع تعریف کرنے والا
واعظ	ع نصیحت کرنے والا
واہب	ع دینے والا
وجاہت	ع عزت، خوب صورتی
وحید	ع اکیلا، یگانہ
ودود	ع دوست
وزیر	ع کارفرما
وسم	ع خوب صورت
وقار	ع بردباری، سکون
وقر	ع عزت، علم
وکالت	ع قائم مقامی
ولایت	ع مدد کرنا

اردو کا ۳۲ وارچ، عربی کا، ۲۰ وارچ، فارسی کا
۱۳ وارچ حوف اسے کے ۵ عدد مقرر ہیں

5

- | | | |
|-------|---|---------------------------|
| ہاجرہ | ع | حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ |
| ہادی | ع | راستہ دکھانے والا ہادیہ |
| ہدایت | ع | سرہبڑی ہدایت النصار |
| ہمت | ع | حوصلہ، بہادری |
| ہمدرد | ع | غم خوار |

عربی کا ۲۶ وارث، فارسی کا ۳۷ وارث، اردو کا
۳۵ وارث حرفاً۔ اس کے اعداد مقرر ہیں۔



یاسمون	عمر	چنیلی کا پھول
یاسمین	مر	چنیلی کا پھول
یاقوت	ع	ایک قیمتی پتھر
یامن	ع	دایاں
یکن	ع	سعادت، برکت
یشرب	ع	مدینہ منورہ کا نام
یادری	ف	مدد، سہارا
یوسف	ع	ایک پیغمبر کا نام
النسار		

روز و شب

بعض لوگ اپنے بھوٹ کو اس کی پیدا ہونے والے دلے اور ستاروں کے مطابقت سے نام رکھتے ہیں۔ اگرچہ علماء کرام کی نظر میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تاہم دلچسپی کی خاطر روز اور ستاروں کے مطابقت سے چند نام لکھ رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی سند بھی نہیں!

لڑکوں کے نام

جمعہ: روز: محمد، جعفر، یونس، حسین، عباس، الیاس، یوسف
 موسیٰ، ابراہیم، ہارون، عثمان، اسحاق، عبد الغنی، عبد الجنی۔
 جمعہ: شب: محمد، ابراہیم، احمد، عباس، ذکریا، صادق، تقی،
 موسیٰ، اسماعیل، یونس، جعفر، آدم
 شنبہ: روز: عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الغفور، عبد الرحیم
 عبد الرزاق، عبد اللطیف، علی، یوسف، یونس، قاسم،

شنبه-شب؛ علی، حسن، عبد اللہ، عبد الرحمن، یوسف،

ابراهیم، داؤد،

یک شنبه روز؛ محمد، سلیمان، قاسم، عبد اللہ، علی، عبد الشمار

سعید، عیسیٰ، یوپ، موسیٰ، داؤد، عثمان۔

یکشنبه-شب؛ طاہر، یوسف، آدم، شفیع، معین الدین،

عبد الوہاب، مجی الدین، عبد اللہ، عثمان، عمر، ابو بکر، اسماعیل، داؤد، سلیمان۔

دوشنبه-روز؛ محمد، احمد، طیب، طاہر، محمود، شفیع، شعیب،

یعقوب، عابد، قاسم، حسین، عثمان، عبد اللہ۔

دوشنبه-شب؛ ابراهیم، سعید، عیسیٰ، فوج، موسیٰ،

داؤد، حسن، آدم، عثمان، محمد، احمد۔

سه شنبه-روز؛ عبد القادر، عبد الشمار، علی، یوسف، یعقوب،

قادر، سعید، حسن، حسین، ابو بکر، عمر، عثمان۔

شنبه-شب؛ محمد، ہارون، اسمحاق، ابراهیم، موسیٰ،

عبد اللہ، باقر، یعقوب، یوپ، آدم، سعید، عبد الشمار، اسماعیل۔

چہارشنبه-روز؛ عبد اللہ، یوسف، ذکریا، ابراهیم، عیسیٰ،

ابو بکر، داؤد، یوپ، اسماعیل، حسن، حسین، علی، عثمان۔

چہارشنبه-شب؛ زین الدین، شرف الدین، طیف، عمر،

عبد الشمار، عبد الحمی، علی، عثمان، تلقی۔

پنجم شنبه روز؛ عبد الغنی، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم،

عبد الشکور، ادریس، ابراهیم، یوسف، عباس، حسن، علی، محمود، ابو بکر۔

پنجم شنبه-شب؛ ابو بکر، عمر، ابراهیم، یونس، یعقوب، محمود، ادریس

داؤد، عثمان، عبد الرحمن، عبد الغفور۔

لڑکیوں کے نام

جمعہ، بوز، ہاجرہ، مریم، خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، شمس النساء، ہمارہ، آمنہ، عزیزہ، رابعہ۔

جمعہ، شب، نجم النساء، جمیلہ، مریم، عابدہ، آمنہ، خدیجہ، حلیمہ، فاطمہ۔

شبہ، روز، شرفیہ، زینب، کلثوم، مریم، ہاجرہ، صفیہ، حنفیہ، نجم النساء، شبہ، آمنہ، شرفیہ، خیر النساء، خدیجہ، مریم، الطیفہ، طاہرہ، صابرہ، عابدہ، عزیزہ، حلیمہ، عائشہ۔

یک شبہ، روز، آمنہ، عائشہ، بدر النساء، شمس النساء، زینب، میمونہ، خدیجہ، زہرہ، ہاجرہ، فاطمہ، حلیمہ۔

یک شبہ، شب، حلیمہ، میمونہ، رضیہ، زینب، عائشہ، فاطمہ، رابعہ، آمنہ، خدیجہ۔ دوشنبہ، روز، ام سلمہ، آمنہ، حمیدہ، فاطمہ، عابدہ، طاہرہ، صفیہ، زہرہ، شمس النساء، کلثوم۔

دوشنبہ، شب، الطیفہ، صابرہ، فاطمہ، جمیلہ، شرفیہ، بدر النساء، قرقنساء، رقیہ، زینب۔

سیمہ، روز، حافظہ، کلثوم، سلیمانہ، زہرہ، عزیزہ، جمیلہ، رقیہ، میمونہ، فاطمہ، زینب۔

سیمہ، شب، صابرہ، عزیزہ، کلثوم، عائشہ، عفیفہ، خدیجہ، آمنہ۔

چہارشنبہ، روز، میمونہ، عزیزہ، مومنہ، مریم، زینب، رابعہ، جمیلہ۔

عائشہ، فاطمہ۔

چہار شنبہ۔ شب؛ الطیف، عزیزہ، جیلیہ، رضیہ، مریم، عائشہ، محبونہ،
جیبہ، شریفہ۔

پنج شنبہ۔ روز؛ خدیجہ، فاطمہ، حلیمة، کلثوم، مریم، جیبہ، خیر النساء،
عبدہ، عائشہ۔

شیخ شنبہ۔ شب؛ الطیف، عابدہ، عزیزہ، جیلیہ، خدیجہ، کلثوم،
آمنہ، زینب، صابرہ، حلیمة، مریم۔

اور کچھ بھی سب سے لمحہ کر

سینچر کے روز جو پر پیدا ہو گا وہ زیادہ تر سیخ و غم میں بتلا رہے
کامگار اللہ جل جلالہ شانہ اس پر برکتی نازل کرے گا اور سب سے خوش ہوئے گے۔
اوار کو جو پر پیدا ہو گا وہ خرد مند اور دولتی مند ہو گا اور کافی
لمحہ عمر پا سے گا۔

پیر کو جو پر پیدا ہو گا وہ مستقلہ مزاج نہ ہو گا اس لئے اسے کوئے
کام میں کامیابی نہ ہو گئے۔ نیکے دلے، متواضع اور نیکے سیرے ہو گا۔
مٹکلہ کو جو پر پیدا ہو گا وہ غصہ و رہو گا۔ جوان ہر میں سخن ہے جلنے
ہو گا۔ تند خود کے سببے بلا دل اور مصیتوں سے دوچار رہے گا۔

چہار شنبہ کو جو پر پیدا ہو گا وہ علم و دوستی و مطالعہ پسند ہو گا، موقع
نصیبے ہو تو وہ دلیکے جلیلے القدر مصنفے ہو گا

چھتراتی کو جو پر پیدا ہو گا وہ دولتی اور عزت پائے گا۔
جمعہ کو جو پر پیدا ہو گا وہ خوش نصیبے اور قوی الجثہ ہو گا۔

ہر کام میں ہے اسے کامیاب ہے ہو گھے اور وہ عرب ہجۃ خوش ہے زبے کا
 نوارٹ؟ مذکورہ خیالات مخفی ہے قیاس ہے پر بننے ہیں ہے، یقیدت
 دایم ہے میں اسے کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کے تعلیم کے مطابق
 تمام بھلائیات سے خداوند عالم کے فضل ہے وکرم کا نتیجہ ہوتے ہیں اور
 خدا تعالیٰ کے مصالحتے کسی دلے اور کسی وقت کے پابندیوں
 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دل پیدا ہوئے
 اور اسے کے باوجود استقلال و استفام ہے میں دوسرا کوئی
 آپ سے کاہم نہیں ہے، اور کامیاب ہے نہ ہر موقع پر آپ کے قدم ہوئے۔

لَيْسَ لِلْإِلَهَ إِلَّا مَا سَعَى
 انسان کو اسکی کوششوں کے مطابق ملتا ہے۔

تاریخی نام

ہر حرف کا ایک عدد ہے، اس طرح حروف اور اعداد کی مدد سے بچوں کے تاریخی نام رکھ جاسکتے ہیں، ایسے ناموں سے ب وقت صورت سالہ سال کے بعد بھی پہ کا سال پیدائش معلوم کیا جاسکتا ہے، اگر کسی کا نام ظفر سیل ہے تو ہم با آسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سال پیدائش ۱۲۸۵ھ ہو گا! اسی طرح سنہ ۱۳۵۰ھ میں پیدا ہونے والے کا نام اسحاق ظفر ہو سکتا ہے: ۱۳۹۱ھ میں کوئی پہ کا سال پیدا ہو تو اس کا نام ظفر قاسمی رکھ سکتے ہیں۔

حروف اور اعداد کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آپ بھی ناموں کے حروف کے اعداد پر ڈرامہ تاریخی نام بنائے ہیں۔ کسی تقویم سے بھی تاریخی نام اپنے جائیں گے۔

ا	ب	ج	د	ھ	ن	ز
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
س	ع	ف	ص	ق	ر	ش
۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰
ت	ث	خ	غ	ض	ظ	غ
۱۰۰۰	۹۰۰	۸۰۰	۷۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۴۰۰

مبارک نام

چند انبیاء علیہم السلام، مشہور صحابہ کرام اور چند برگزیدہ اولیاء اللہ کے نام نیچے دیئے جا رہے ہیں، ان ناموں سے آپ اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ نام رکھنے کا یہ طریقہ درست ہے۔

پیغمبروں کے مرفق نام

آدم	شیلت	ادریس	نوح	ہود
ابراهیم	اسحاق	اسماعیل	یعقوب	شعیب
ایوب	لقمان	موسى	یوشع	ذوالقلعہ
ایسح	سلیمان	عیسیٰ	جرجیس	صالح
لویط	یوسف	یونس	حضرت	
ہارون	خالد	الیاس		نہ کریم
شمعون	محمد	داود		یکی

مشہور صحابہ کرام کے نام

عثمان بن عفان	عمر بن خطاب	ابو بکر صدیق رض
خالد بن سعید رض	عمرو بن عبد الرحمن	علی ابن ابی طالب رض
معاذ بن حیدہ رض	حسین بن ابو عران	ضماد رضی اللہ عنہ

عدری بن حاتم رض	ذی الجوش بن جنابی رض	بیشیر بن مضاصیه رض
ابو قعافہ رض	عمر بن عاصی رض	زید بن سمعة رض
خالد بن ولید رض	عکرمہ بن الجبل	صفوان بن امیہ رض
حولیطہ بن عبد العزی	حارث بن ہشام	نقیہ بن حارث
مصعب بن عکر رض	طلیب بن عکر رض	عیرض بن وہب
ابو هریرہ رض	ضمام بن شعبانہ رض	عمرو بن مروجہنی رض
عروہ بن مسعود رض	طفیل بن عزود ویہ رض	تیاد بن حارث رض
بکیر بن زہیر بن ابوسلیہ رض	طلحہ بن عبد اللہ رض	نزیر بن عوام رض
بلال بن رباح رض	عابر بن یاسر رض	خباب بن ارش رض
ابو ذر غفاری رض	سعید بن زید رض	عثمان بن مظعون رض
عبد اللہ بن حذافہ	سعد بن ابی وقاص رض	مقداد بن اسود رض
جعفر بن ابوطالب رض	صہیب بن سنان رض	عبد اللہ بن عمر رض
عبد اللہ بن حجش رض	حزہ بن ابوالعیض رض	واتلد بن اسقع رض
جنادہ بن امیہ رض	عبد اللہ بن عباس رض	حزہ بن عبد المطلب رض
عباس بن عبد المطلب رض	معاذ بن عکر و رض	ابودجانہ سمک رض
قناہ بن نعماں رض	سلہ بن اکوع رض	برابن مالک رض
ابی محجن شققی رض	عمر بن معبد یکریہ رض	عبد اللہ بن زہیر رض
معاذ بن عفرا رض	ابو عبیدہ بن الجراح رض	اویس قرنی رض
سلمان فارسی	عبد الرحمن بن عوف رض	عبد الرحمن بن عوف رض

امہات المؤمنین کے نام

ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رض	ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رض
ام المؤمنین بی بی حصیرہ رض	ام المؤمنین بی بی زینب بنت خزیمہ
ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رض	ام المؤمنین بی بی زینب بنت عوش
ام المؤمنین بی بی جویریہ رض	ام المؤمنین بی بی ام جبیرہ رض
ام المؤمنین بی بی صفیہ رض	ام المؤمنین بی بی میمونہ رض

بنات طیبیات کے اسمائے گرامی

حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رض	حضرت زینب بنت رض
حضرت ام کلثوم رض	حضرت رقیۃ زہرہ رض

حضور کے صاحبزادگان

حضرت ابراہیم رض	حضرت قاسم رض
حضرت طیبہ رض	حضرت طاہر رض

روزِ قیامت ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پُکارا جائیگا

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَسْمَاءِ كُمْ وَأَسْمَاءِ أَبَاءِ كُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَ كُمْ کتم روزِ قیامت اپنے اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ بُلائے جاؤ گے۔ لہذا تم ابھی اچھے نام رکھو۔ (ابوداؤر)

اس مسئلہ میں امام بخاری کی روایت قطعی نص کا درجہ رکھتی ہے۔ امام موصوف نے اپنی کتاب ”صحیح البخاری“ میں ایک مستقل باب باندھا ہے۔ ”باب یُدعى النَّاسُ بَا بَاءِ هُمْ“ اور پھر اس باب کے تحت وہ حدیث درج کی ہے جس میں ہے ”روزِ قیامت ہر دھوکے باز کی ذمہ میں ایک جھنڈا ہو گا اور کہا جائے گا یہ دھوکے باز فلاں ہے جو فلاں شخص کا بیٹا ہے۔

(صحیح البخاری 10 / 363)



DECCAN TRADERS

Educational Publishers

23-2-378, Moghalpura, Hyd-500 002

Call : 040-24521777, 66490230, Fax : 66710230

Website : www.deccantraders.co.in

E-mail : dthyd@yahoo.com

Rs. 30/-